

سورۃ الحج (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۹۴۶۔ طفلاً بچہ
 ۲۹۴۷۔ اُرْدُذِلْ الْعُبْرَانَا كَارِي عَمْر
 ۲۹۴۸۔ هَامِدَةٌ فَتَشْكُ، سَوَكِي
 ۲۹۴۹۔ اَهْتَرَتْ اُبْهَرْتِي هِيَ
 (دہلنا)
 ۲۹۵۰۔ مَرَبَتْ پھولتی ہے،
 تازی ہوتی ہے
 ۲۹۵۱۔ رُذِيْلٌ يَبْصِجُ فَوْشٌ مَنظَرِ قَسَمٍ،
 جوڑے بارونق،
 جوڑے خوشنما
 ۲۹۵۲۔ ثَانِيٌ مَوْرِنٌ وَالَا
 ۲۹۵۳۔ عَطْفٌ شَانِ
 ۲۹۵۴۔ حَرْفٌ كِنَارِے
 ۲۹۵۵۔ سَبْدٌ رَسِي
 ۲۹۵۶۔ دَوَابٌ جَانِدَارِ
 ۲۹۵۷۔ حَصْمِنٌ جَهْرَانِے وَالِے
 دوفرقت
 ۲۹۵۸۔ اِحْتَصَمُوْا جَهْرَانِے اَنْخُوْلِے
 ۲۹۵۹۔ قَطَعْتُ كَاظِرْ كَعِي كَعِي
 ۲۹۶۰۔ تَيَابٌ كِطْرِے

سورۃ الحج (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۹۸۱۔ يَصُبُّ ذَالَا جَائِے كَا
 ۲۹۸۲۔ يَضْرِبُوْا كَلْ جَائِے كَا
 ۲۹۸۳۔ مَقَامِعٌ كَهْنٌ، بَهْمُوْرَے
 ۲۹۸۴۔ حَدِيْدٌ لُوْبَا
 ۲۹۸۵۔ لُوْلُوْءٌ مَوْنِي
 ۲۹۸۶۔ حَجْرِيْوٌ رَشِيْمٌ
 ۲۹۸۷۔ مَكَائِفٌ رَسْبِنِے وَالَا، مَقَانِي
 ۲۹۸۸۔ يَادٌ بَاہِرِے اَنْبُوَالَا
 ۲۹۸۹۔ اَلْحَادُ بَے دِيْنِي، شَرْكٌ،
 اَلْحَادِے
 ۲۹۹۰۔ صَاوِرٌ دُوْبِے اُوْنِظْ
 ۲۹۹۱۔ نَجْعٌ عَيْبِيْظٌ لَاسْتِے دُوْرِدَا زَا كِے
 ۲۹۹۲۔ كَهْمِيْمَتَا اَلْاَنْعَاوِيْرِيْنُوَالِے جَانُوْرِ
 ۲۹۹۳۔ كَلُوْا كَهَادُ
 ۲۹۹۴۔ اَطْعَمُوْا كَهَلَاوُ
 ۲۹۹۵۔ اَلْاِنْبَاسُ كَهُوْكََا
 ۲۹۹۶۔ يَفْضُوْا كَهُوْكََا
 (کرنما)
 ۲۹۹۷۔ تَفَشُّ مِيْلٌ كِطِيْلٌ

سورۃ نبي (۱۰۶)

نمبر شمار عربی اردو

- ۳۹۹۸۔ بِيْتِ الْعَيْتِ كَهْرَقَدِيْمٌ
 ۳۹۹۹۔ تَخَطَّفُ اُجْلِے جَائِے هِے
 ۵۰۰۰۔ تَهْوِيْ كِرَاوِيْرَا هِے
 ۵۰۰۱۔ سَحِيْقٌ مَبِيْتٌ دُوْرِ
 ۵۰۰۲۔ مَحْبِيْبِيْنٌ كِرْدُنٌ كَهْمَا دِيْنِے
 وَالِے۔
 ۵۰۰۳۔ بُدْنٌ اُوْنِظْ
 ۵۰۰۴۔ صَوَاتٌ قَطَارِے لَكِے هُوْرَے
 ۵۰۰۵۔ وَجَبْتُ كِرْطِيْنِے
 ۵۰۰۶۔ قَانِعٌ بَے سَوَالِ
 ۵۰۰۷۔ مَعْتَرٌ بَے قَرَارِ سَاكِلِے
 ۵۰۰۸۔ لُحُوْمٌ كَوْشَتِ
 (وَاَعَدُ، لُحُوْمٌ)
 ۵۰۰۹۔ حَوَانٌ خِيَانَتِ كِرِيْنُوَالَا
 ۵۰۱۰۔ اِذْنٌ اِجَازَتِ دِيْ كِيْ
 ۵۰۱۱۔ يَفْتَلُوْنُ رِطَانِي كَتِے جَائِے هِے
 مَارِے جَائِے هِے

الثلثة

سورۃ الحج (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

- ۵۰۱۲۔ هُدِيْمَتٌ دُهَادِے جَائِے
 مَنَهْمِدٌ كِرْدِے
 جَائِے۔
 ۵۰۱۳۔ صَوَا مِعٌ خَلُوْتِ خَانِے،
 خَانِقَا هِے، مَرَسِے
 ۵۰۱۴۔ بِيْعٌ نِصَارِيْ كِے عِبَادَتِ
 خَانِے، كِرْجِے
 ۵۰۱۵۔ صَلَوَاتٌ يِھُوْدِ كِے عِبَادَتِ خَانِے
 كِلِيْسَا
 ۵۰۱۶۔ اَمْلِيْتٌ دُهِيْلِ دِي هِے نِے
 ۵۰۱۷۔ تَكْيِيْرٌ عَذَابِ
 ۵۰۱۸۔ بِنْدٌ كِنُوَالِ
 ۵۰۱۹۔ مَعْطَلَةٌ نَا كَارِے، خَالِي، بِي كَارِ
 ۵۰۲۰۔ قَصِيْ مَحَلِ
 (جَمْعُ : قُصُوْرِ)
 ۵۰۲۱۔ مَشِيْدٌ اُوْنِجِے، مَضْبُوْبٌ، مَرْزِيْنِے
 مَنَقَشِے، بَلَنْدِ
 ۵۰۲۲۔ تَعْبِيْ اَنْدِھِي هُوْ كِيْ
 ۵۰۲۳۔ تَمَنِيْ تَمَنِيْ
 ۵۰۲۴۔ تَخِيْبَتِ عَا جِزِي كِرِيْنِے

بَارَةُ مَبْرُورٍ (۱۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۲۵. عَقِيدَةُ يَا نَجْمُ، بے برکت

۵۰۲۶. مُحَضَّرَةٌ سَبْرٌ

۵۰۲۷. اَنْ تَقَعُ كَمَّ كَرِيْمِيْنَ
۵۰۲۸. يَسْطُوْنَ جَمَلَكُ رَدِيْنَ كَعِيْ

۵۰۲۹. ذِيَابَا مَكِّي

۵۰۳۰. يَسْلُبُ چھین ليوے

۵۰۳۱. لَا يَسْتَقْدُ وَلَا نَهْطُ سَكِيْنَ

۵۰۳۲. اِسْتَقَادُ جَھِطُ اِلَيْنَا

بَارَةُ مَبْرُورٍ

مَنْوَن (۲۳) سُوْرَةُ الْمُوْنِ

۵۰۳۳. فُرُوْجٌ شَرْمُ كَابِيْنَ

(فراج: واحد)

۵۰۳۴. عَيْدُ مَلُوْمِيْنَ نَيْسِ سَلَامَتِ كَعِيْ كَعِيْ

سُوْرَةُ الْمُوْنِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۳۵. عَلُوْنٌ حَدَسَ نَكْلُ جَابِيُوْا

۵۰۳۶. رَا عُوْنٌ رِعَايَتِ كَرِيْمُوْا،

خِيَالِ رَكْحَنِيْ وَوَالِيْ

۵۰۳۷. سُلَّةٌ خَلَاصَه

۵۰۳۸. كَسُوْنَا پینا دیا ہم نے

۵۰۳۹. طَرِيقُ رَابِيْنَ

(واحد: طَرِيْقَتَا)

۵۰۴۰. ذَهَابُ بِيْجَانِيْ كُو

۵۰۴۱. ذُهْنٌ چکنائی

۵۰۴۲. صَبِيْعٌ سَابِنٌ

۵۰۴۳. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوْجَاتِيْ تُو

(برابر ہونا)

۵۰۴۴. مَبْتَلِيْنَ اَزْمَانِشِ كَرِيْمُوْا

۵۰۴۵. اَقْرَبْنَا دَوْلَتِ دِيْ هَمْنِيْ

۵۰۴۶. اِسْرَافُ دَوْلَتِ دِيْنَا،

عِيْشِ دِيْنَا

۵۰۴۷. هَيِّفَاتِ نَامِكِنِ، ہونہیں سکتا

۵۰۴۸. عَنَاءُ خَسِ وَخَاشَاكُ،

رِيْزِه رِيْزِه

بَارَةُ مَبْرُورٍ (۱۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۴۹. تَتَرَا يَكِيْ بَعْدُ دِيْ كَرِيْ،

مَسَلَس

۵۰۵۰. رَا بُوْةٌ يَبْلُدُ جَلَه

۵۰۵۱. زَبْرًا نَكْرَطِيْ

۵۰۵۲. غَمْرَةٌ غَفْلَتِ، چکر

۵۰۵۳. جَعْدٌ فَرِيَادِ كَرِيْنَا

۵۰۵۴. تَنَكُّصُوْنَ اَنْجِيْ بَھَا كَعِيْ تَم

(نك ص)

۵۰۵۵. سَمِيْرَا اِفْسَانِ كُوْنِيْ كَرِيْنَا

۵۰۵۶. تَهْجُرُوْنَ يَهُودِيْهَ بِيْ كُوْا سِ كِيْ تَمْنِيْ

الرْبِع

۵۰۵۷. نَيْكِيُوْنَ مَرْطَبَانِيُوْا (نك ب)

۵۰۵۸. لَجُوْنَا اَرْطِيْ رَسِيْ

۵۰۵۹. بِيْجِيْدُ پِنَاہِ دِيْتَا ہِيْ

۵۰۶۰. لَا يَجَا رَعِيْبِيْ نَيْسِ پِنَاہِ دِيْ جَا كِيْ

اس کے خلاف

۵۰۶۱. هَمَزَاتِ دَسُوْسِ، چھوڑھاڑا کساوا

سُوْرَةُ التَّوْرِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۶۲. قَائِلٌ كَبْنِيْ وَوَالَا

۵۰۶۳. اَنْسَابُ رَشِيْتِيْ، نَلَطِ

۵۰۶۴. تَلْفَحُ جُھَلَسِ دَعِيْ كِيْ

۵۰۶۵. كَالْحُوْنِ بِرَشِكْلِ

۵۰۶۶. عَادِيْنَ كَنْتِيْ كَرِيْ وَوَالِيْ

۵۰۶۷. عَبْنَا بَعِيْ فَا تَدِه

۵۰۶۸. اَجْبَلِنُ وَوَا كُوْرِيْ لَكَا وَتَم

۵۰۶۹. جَلْدَا كُوْرِيْ، دُرِيْ

۵۰۷۰. رَا اَفْهٌ رَحْمِ، مَہْرَبَانِيْ

۵۰۷۱. يَزْمُوْنَ تَهْمَتِ رَكَا تِيْ

۵۰۷۲. تَهْمِيْنَ اَسِيْ

۵۰۷۳. يَدْرَاؤُ مَہْتِ سَكَا تِيْ

۵۰۷۴. اِفْكَ جُھُوْطِ، ہَتِنَانِ

۵۰۷۵. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

۵۰۷۶. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

۵۰۷۷. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

۵۰۷۸. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

۵۰۷۹. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

۵۰۸۰. اَفْضَلُ شُرُوْعِ كِيَا تَمْنِيْ

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۰۷۹. تَلْقَوْنَ لِيَتَّعِبَنَّ رِجْلَاكُمْ
۵۰۷۸. هَيَّا آسَانَ
۵۰۷۷. تَشِيْعٌ يَّجْعَلُكُمْ
ع

النصف

۵۰۷۶. لَا يَأْتِيَنَّكُمْ رِجْلَاكُمْ
۵۰۸۰. قَسَمٌ كَمَا
۵۰۸۱. مُبْرَوْنٌ بِرِي
ع
۵۰۸۲. تَسْتَأْنِسُوا أَجَازَتِمْ
۵۰۸۳. مَيْلٌ مَسْكُونَةٌ بِغَيْرِ مَسْكُونَةٍ
جہاں کوئی رہتا ہے
۵۰۸۴. عَصُفٌ يَجْعَلُكُمْ
۵۰۸۵. لَا يَبْدِيَنَّ تَطَاهِرٌ
۵۰۸۶. بَعْدَ شَوْبَرٍ
۵۰۸۷. مَعْرُوفٌ أَلَا أَيْسَرُ مَرْدٌ
کی حاجت نہ رکھتے
ہوں۔
۵۰۸۸. طِفْلٌ يَجْعَلُكُمْ

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۰۸۹. عَوْنَاتٍ يَجْعَلُكُمْ
۵۰۹۰. أَيَّامِي يَوْمَ تَخْرُجُنَّ
۵۰۹۱. أَمَاءٌ لَوْنِيَّاتٍ
(واحد: أَمَةٌ)
۵۰۹۲. قَلِيَّتٍ بَانِيَّاتٍ
۵۰۹۳. نِعَاةٌ بِدَكَارِي
۵۰۹۴. تَحْصَنًا يَأْكُلُ دَامِنٌ
۵۰۹۵. عَرْضٌ بِسَبَابِ
ع
۵۰۹۶. مَسْكُونَةٌ طَائِفٌ
۵۰۹۷. مَصْبَاحٌ فَنَافِيسٌ
۵۰۹۸. مَرْجَاةٌ شَيْشَةٌ
۵۰۹۹. كَوْكَبٌ تَارَهُ
۵۱۰۰. دُرِّيٌّ يَجْمَلُكُمْ
۵۱۰۱. يُوْقَدُ رُشْنٌ
۵۱۰۲. مَرِيَّتٌ تَيْلٌ
۵۱۰۳. يُضِيئُ نُوْبٌ رُشْنٌ
۵۱۰۴. تَرْفَعُ بَلَدٌ كَيْتٌ
۵۱۰۵. تَتَقَلَّبُ أَلْطُجَانٌ
۵۱۰۶. مَسْأَبٌ يَجْعَلُكُمْ
سے پانی کی طرح نکلے

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
اور اُس پانی کا
دھوکا ہو۔
۵۱۰۷. قَيْعَةٌ مِيدَانٌ
۵۱۰۸. ظَنَانٌ يَسَا
۵۱۰۹. لُجِّيٌّ كَرَاهِيَةٌ
۵۱۱۰. لَمْ يَكُنْ نَهْنِيٌّ قَرِيبٌ
ع
۵۱۱۱. مَرُكَمَا تَرْتِيَةٌ
۵۱۱۲. وَدَقٌ بَارِشٌ
۵۱۱۳. خَلَلٌ يَجْعَلُكُمْ
۵۱۱۴. بَرْدٌ تَهْنَدَةٌ
اولوں کی سردی۔
۵۱۱۵. سَنَا يَجْعَلُكُمْ
۵۱۱۶. مُدْنٌ عَيْنِيٌّ كَرُونٌ
مُنْدِيَّاتٌ بَلَاتَةٌ
۵۱۱۷. يَجْنِيْفٌ نَانَا نَصَانِيٌّ
ع
الثلثه
۵۱۱۸. يَسْتَحْلِفَنَّ خِلَافَتٌ
۵۱۱۹. مَعْجَزِيْنَ عَاجِزٌ
دے گا
والے

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
ع
۵۱۲۰. يَسْتَأْذِنُ أَجَازَتِمْ
کریوے۔
۵۱۲۱. اسْتَيْذِنُ أَجَازَتِمْ
۵۱۲۲. حُلْمٌ عَدْلُوعٌ
۵۱۲۳. تَضْعُونُ أَمَّا رُكْحَتِي
۵۱۲۴. نَهْدِيَّةٌ دَوْبِيرٌ
۵۱۲۵. أَطْعَالٌ رُطْبَةٌ
۵۱۲۶. قَوَاعِدٌ بَيْطَةٌ
عمر کی عورتیں جو
نکاح کی خواہش
نہ رکھتی ہوں۔
۵۱۲۷. مُتَدَبِّجَاتٌ زِينَتٌ
کریوایاں۔
۵۱۲۸. أَعْرَاجٌ لَنْكُرٌ
۵۱۲۹. أَعْمَامٌ يَجْعَلُكُمْ
۵۱۳۰. عَمٌّ يَجْعَلُكُمْ
۵۱۳۱. عَمَّتٌ يَجْعَلُكُمْ
(واحد: عَمَّةٌ)
۵۱۳۲. أَحْوَالٌ مَامُونٌ
(واحد: خَالٌ)

پارہ نمبر (۱۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۳۳۔ شَانُ کَامِ
۵۱۳۴۔ یَسْتَلْزُونَ کھسک جاتے ہیں
۵۱۳۵۔ تَسْلَلْنَ کھسک جانا
۵۱۳۶۔ یُوَادُّوْنَ نظر بچا کر

الفرقان (۲۵) سورۃ

۵۱۳۷۔ نَسْتُوْرًا جی اٹھنا
۵۱۳۸۔ اَعَانَ اِعانت کی
۵۱۳۹۔ تَمَلَّی اِملاکروائی جاتی ہیں
۵۱۴۰۔ یَعْبَسُوْنَ چلتا ہے
۵۱۴۱۔ اَسْوَقَ بازار
(واحد: سُوْقٌ)
۵۱۴۲۔ تَصُوْرًا محل
۵۱۴۳۔ تَغِيْظًا جوش، غصہ
۵۱۴۴۔ ضَبْحًا تنگ

سورۃ الفرقان (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۳۵۔ مَقْرَبِيْنَ جکڑے ہوتے،
ایک ساتھ کئی
بندھے ہوتے۔
۵۱۳۶۔ تَبُوْرًا ہلاکت، ناس،
بربادی، کھینچی۔
۵۱۳۷۔ اَصْلَلْتُمْ گمراہ کیا تم نے
۵۱۳۸۔ یُوْسْرًا بریاد، غارت پھولے

پارہ نمبر (۱۹)

۵۱۳۹۔ حَجْرًا آڑ، پناہ گاہ، بند
۵۱۴۰۔ هَبَاءً ریت
۵۱۴۱۔ مَنَّوْرًا پراگندہ
۵۱۴۲۔ مَقْبِلًا دوپہر کے وقت
آرام کرنا۔
۵۱۴۳۔ قِيلُوْدًا قیلوہ کرنا
۵۱۴۴۔ غَمَامًا بدلی

پارہ نمبر (۱۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۴۳۔ يَعْصُ كاکھاسے گا
۵۱۴۴۔ مَهْجُوْرًا چھوڑا ہوا
۵۱۴۵۔ تَزْتِيْلًا تھم تھم کر
۵۱۴۶۔ تَفْسِيْرًا تفسیر، کھول کر
دھناحت
۵۱۴۷۔ دَمْرًا ہلاک کرنا
۵۱۴۸۔ اَصْحَابِ الرَّبِّ کنویں والے
۵۱۴۹۔ تَبْيِيْرًا توڑ پھوڑ کر دینا
۵۱۵۰۔ ظِلٌّ سایہ
۵۱۵۱۔ دَلِيْلًا علامت
۵۱۵۲۔ سُبَاتًا آرام کا سبب
۵۱۵۳۔ مَرَجٌ ملادیا
۵۱۵۴۔ عَدَبٌ میٹھا
۵۱۵۵۔ فِرَاتٌ پیاس بچھانے والا
۵۱۵۶۔ مَلْحٌ کڑوا (نمکین)
۵۱۵۷۔ اُنْجَا ح تیز،
چھانی جلا دینے والا
۵۱۵۸۔ بَرَزَخٌ آڑ
۵۱۵۹۔ نَسِيْبًا ناطے، خاندان

سورۃ الفرقان (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۴۱۔ صِهْرًا سسرال
۵۱۴۲۔ بِرَآجِ چراغ
۵۱۴۳۔ خِلْفَةً آگے پیچھے آئیوں
۵۱۴۴۔ يَمْشُونَ چلتے ہیں
۵۱۴۵۔ هُوْنًا آہستگی،
پُرْدَقَارٌ لپٹے پر
۵۱۴۶۔ بَيِّنُوْنَ رات بسر کرتے ہیں
۵۱۴۷۔ غَرَامًا پوری تباہی
۵۱۴۸۔ يَفْتَرُوْنَ تنگی کی
۵۱۴۹۔ قَوَامًا معتدل، درمیانی
۵۱۵۰۔ مَهَانًا رُسوا،
ذلیل
۵۱۵۱۔ غُرْفَةً بالافتانے
۵۱۵۲۔ مَا يَعْجُوْ نہیں پرواہ کرنا
۵۱۵۳۔ لَزَامًا لازم ہونے والا،
چپکنے والا۔

الربح

نمبر شمار عربی آردو

الشعراء (۲۶)

۵۱۸۳. خَضْعَيْنِ نَبِيٍّ كَرُونَ دَانِي
وَالِي.

۵۱۸۴. وَلِيْنَا اِبْحِينَ، (لَطَا)
۵۱۸۵. مَسْجُونَيْنِ قِيدِي لُوكِ
۵۱۸۶. تَعْبَانِ اَرْدَا

۵۱۸۷. اَرْجِيَهٗ طَهِيْلِ دَسِ
۵۱۸۸. لَا ضِيْرُ كُوْنِي حَرَجِ نَهِيں
۵۱۸۹. مَبْرُومَةَ جَمَاعَتِ، كَرُو،
وَلِي.

۵۱۹۰. غَاظُوتُنِ غَضَبِيں لَانِيوَالِي
۵۱۹۱. حَنْرُونِ بِيَا ذَكْرِيوَالِي
۵۱۹۲. مَسْرِيَيْنِ صَبْحِ كِي مَوْقِعِ پَرِ،
پُو پُچھتے سِي

سُورَةُ الشَّرَا (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۱۹۳. مَدْرُكُونِ بِيَا رِي جَانِيوَالِي
۵۱۹۴. كَلَّا هَرَكْرِي نَهِيں
۵۱۹۵. اِنْفَانِي پُھٹ كِيَا
۵۱۹۶. طُوْدِ پِيہَاڑ
۵۱۹۷. اَرْلَفْنَا نَزْدِيكِ كَرِيَا،
مہ نِي مَلَا دِيَا

۵۱۹۸. اَقْلُ مَوْنِ قَدِيْمِ، پِيہ لُوكِ
۵۱۹۹. يَسْتَفِيْنِ پَانِي پِلَاتَا سِي مِجھِ
۵۲۰۰. اَلْحَقُّ مَلَا دَسِ
۵۲۰۱. اَرْلَفْنَا نَزْدِيكِ كَرِيَا
جَانِي كِي

۵۲۰۲. بَرِيْرَاتِ ظَاہِرِ كَرِيَا جَانِي كِي
۵۲۰۳. كَلْبِيُوَا اُونْدِي دَسِ ڈَالِي كَتِي
۵۲۰۴. صَدِيْقِ دُوسْتِ
۵۲۰۵. حَبِيْمِ دَسُوْرِي كَرِيُوَا لَا

۵۲۰۶. اَرْدَا لُوْنِ كَمِ دَرَجِي كِي
لُوكِ، ذَمِيں اَدِي
۵۲۰۷. طَارِدُ بَانِكِنِي وَا لَا،
دُور رُكھنِي وَا لَا

سُورَةُ الشَّرَا (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۲۰۸. مَرْمُومِيْنِ سَنَسَارِ كَتِي كَتِي

النصف

۵۲۰۹. مَشْحُونِ بھري ہوني
۵۲۱۰. تَبْتُونِ بِنَاتِي ہو تَمِ
۵۲۱۱. رِي رِي اُو نِي مَقَامِ
۵۲۱۲. مَصَانِعِ كَارِيْمِي

(كَارِزَانِي)
۵۲۱۳. بَطْسَمُ پَرِ اَتَمِ نِي
۵۲۱۴. اَمَلُ اَمَلِ دِ كِي

۵۲۱۵. هُمْنَا يِيہَاں
۵۲۱۶. هَضِيْمُ بُو جھِ كِي مَارِي
ٹوٹِي پُڑ تَا سِي
۵۲۱۷. فَرِھِيْنِ اَتْرَانِي دَالِي

۵۲۱۸. ذُكْرَانِ مَرُو (رَجَعِ)
۵۲۱۹. قَالِيْنِ سَخْتِ نَفَرْتِ
كِرْنِي دَالِي
۵۲۲۰. عَجُوْرُ بُوڑھِيَا

سُورَةُ الشَّرَا (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۲۲۱. اَيَكْتِي بِنِ وَا لِي،
بِنُوَا سِي،
اصْحَابِ الْاَيَكْتِي،
اَيَكْتِي قَوْمِ كَانَامِ،
بُو كُھنِي جَنَكَلَاتِ
مِيں بَسْتِي تَحِي.

۵۲۲۲. حِلَّةُ مَحْلُوقَاتِ
۵۲۲۳. اَسْقَطُ كَرَا دَسِ

۵۲۲۴. اَعْتَجِيْبِيْنِ غِيْرِ عَرَبِي
۵۲۲۵. سَلَكْنَا جِلَا دِيَا ہِمِ نِي
۵۲۲۶. مَعْرُودُونِ رُوكِ دِي سِي
كَتِي.

۵۲۲۷. اِنْنَصَرُوَا بَدَلِي لِيَا
۵۲۲۸. مُنْقَلَبِ جَلِي پُھرنِي كِي

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

النمل
سورۃ

۵۲۲۹. ثَلَاثِيٌّ سَكَّاهَا يَأْتِجَانِي
وَالْآخَرَاتِي

البشلة

۵۲۳۰. شَهَابٌ شَعْلَةٌ
۵۲۳۱. نَسِيسٌ انْكَارُهُ
۵۲۳۲. تَضَلُّوْنَ سِينُكُوْتُمْ
۵۲۳۳. بُورِكٌ بَرَكَةٌ دِيْكَتِيْ
۵۲۳۴. تَهْتَكُوْنَ بِلْتَانِيْ
۵۲۳۵. جَانٌ سَانٍ
۵۲۳۶. لَمْ يُعَقَّبْ نَهِيْسٌ يِجْمَرٌ
۵۲۳۷. حَيْبٌ كَرِيْبَانٍ
۵۲۳۸. مَنَطِقٌ بُولِيٌّ
۵۲۳۹. بُوْرَعُوْنَ جَمْعٌ كَرِيْبَانِيْ
۵۲۴۰. وَادِيْمَلٌ مِيْدَانٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْكَ
۵۲۴۱. فَهْلَةٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْكَ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۲۲۲. لَا يَحِطُّوْنَ بِكَيْلِ ذَا لِيْ
۵۲۲۳. تَبَسَّمٌ مَسْكَرًا دِيَا
(مصدر: تَبَسَّمَ)
۵۲۲۴. ضَا جَا كَا هِنَسْتَانِيْ
۵۲۲۵. اَوْزَعٌ تَوْفِيْقٌ دِيْ
۵۲۲۶. تَفَقَّدٌ حَا ضَرِيْلِيْ، جَبْرِيْلِيْ
۵۲۲۷. هُدُّ هُدُّ اِيْكٌ پَرِنْدُ
۵۲۲۸. سَبَاٌ مَلِكٌ سَبَا اِيْكٌ
مَلِكٌ كَا نَامُ -
۵۲۲۹. حَبَبٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْكَ
۵۲۳۰. اَلْقَصْرُ ذَا اَلرِّسِ
۵۲۳۱. قَاطِعَةٌ قَطْعِيٌّ فَيَصِلُهُ
۵۲۳۲. هَدْيِيَّةٌ تَحْفَةٌ
۵۲۳۳. عَفْرِ يَثٌ قَوْمِيٌّ سِيْكَلٌ
۵۲۳۴. يَزْتَكُّ پَهْرًا وَاوَسٌ،
لُوْثٌ اَوْسٌ
۵۲۳۵. طَرَفٌ نَكَاةٌ، پَلِكٌ
۵۲۳۶. نَكْرُوْدٌ اِنْجَانٌ كَرْدُوْكَ
بَدَلٌ دُوْ
۵۲۳۷. اَلْهَكْدَا اِسْمٌ طَرَحٌ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۲۵۸. نُجَّةٌ كِهْرًا پَانِيٌّ
۵۲۵۹. كَسَفَتْ كِهْلُوْلٌ دِيَا
۵۲۶۰. سَا قِيٌّ پِنْدِيَاں دَمْتِيْ
(واحد: ساق)
۵۲۶۱. مُمَرَّدٌ مَنْدَهَا هُوَا، جَبْرًا هُوَا
۵۲۶۲. قَوَارِيْرٌ شِيْشَةٌ
۵۲۶۳. رَهْطٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْكَ
۵۲۶۴. تَفَا سَمُوْدٌ قَسْمٌ كِهْلَاوُ
۵۲۶۵. نَبِيْدَتِيْنٌ هَم رَا تٌ كُوْمَارٌ
ذَالِيْسٌ كِيْ
۵۲۶۶. مَهْلِكٌ مِلَا كَتٌ كَا وَقْتٌ
۵۲۶۷. اِصْطَفَى مَنْتَوَّبٌ كِيَا
۵۲۶۸. اَللّٰهُ كِيَا اَللّٰهُ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

النمل
سورۃ

۵۲۶۹. حَدَّ اَلْبِقْعُ بَا غَا تٌ
(واحد: حَدَّ يَقَعُ)
۵۲۷۰. ذَا كَتٌ بَهَجَةٌ بَارُوْفِقٌ
۵۲۷۱. دَوَابِيٌّ پِهَارٌ
۵۲۷۲. حَا جِرًا اَرْ، حَرًا فَا صِلٌ
۵۲۷۳. اِدْرَاكٌ بَار مَانٌ كِيَا،
تَهْكٌ كَرْمَتَلَفٌ هُو كِيَا
۵۲۷۴. رِدْفٌ لَكَا يِجْمَرٌ
۵۲۷۵. تَكِيْنٌ پُوْشِيْدَه سِيْ
۵۲۷۶. نَقْصٌ پِيَا نٌ كَر تَا هِيْ
۵۲۷۷. اَمَّا ذَا اِيَا كِيَا
۵۲۷۸. فَرِيْعٌ بِيْ هُوْشٌ
۵۲۷۹. اِدَا خِرِيْنٌ ذَلِيْلٌ
۵۲۸۰. جَا مِدَةٌ جِيْ هُو تِيْ
۵۲۸۱. كُبْتٌ اُوْنْدَهْ وَ اَلِيْ كِيْ

پارہ نمبر (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو

القاصص سورۃ

۵۲۸۲- ہامان فرعون کے وزیر کا نام
۵۲۸۳- اُرْضِعْ دودھ پلا
۵۲۸۴- اَلْكُفَّٰتُ اٹھالیا
۵۲۸۵- فِرْعَاوْنَ خالی صبر سے
۵۲۸۶- قُصِيْ خیر نکال
۵۲۸۷- جُنُبٌ دُور سے،
کروٹ سے
۵۲۸۸- اُدُلٌ خیر دوں

الرَّبِيعِ

۵۲۸۸- اِسْتِغَاثَةً فریاد کرنا
۵۲۸۹- اِسْتِغَاثَ فریاد کی
۵۲۹۰- وَكُنَّ گھونسا مارا
۵۲۹۱- يَتَرَقَّبُ بھید لیتا ہوا،
خطرہ بھانپتا ہوا

سورۃ القاصص (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۲۹۲- اَمْسِ کُل رگزشتہ
۵۲۹۳- يَسْتَصْرِخْ پکارتا ہے
چیتا ہے
۵۲۹۴- يَبْتَطِشْ ہاتھ بڑھایا
(پکڑنا)
۵۲۹۵- اَقْصَى دُور، کنارے
۵۲۹۶- يَسْعَى دوڑتے ہوئے
۵۲۹۷- يَأْتِمُرُونْ مشورہ کرتے
ہیں، حکم جاری
کرنے والے ہیں۔
۵۲۹۸- تَوَجَّهْ رُخ کیا، ہو گیا
طرف
۵۲۹۹- تَلْقَاءُ وہ دو جوڑتیں
۵۳۰۰- تَدُّوْذُنِ الگ رُکھی کھڑی ہیں
پھیرتے جاتے
۵۳۰۱- يَصْدِرْ پروا ہے
۵۳۰۲- رِعَاءُ (جمع ذاعی کی)
۵۳۰۳- اِسْتِجِيَاءُ شرماتے ہوئے
۵۳۰۴- اِسْتَاْجِرْ مزدور رکھے،
نوکر رکھے

پارہ نمبر (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۰۵- اِحْدَى کوئی ایک
۵۳۰۶- هَاتَيْنِ یہ دونوں
۵۳۰۷- حَجَجٌ برس
(واحد: حَجَّةٌ)
۵۳۰۸- اَيُّمًا چونسبھی، کوئی بھی
چغ
۵۳۰۹- سَارَ لے چلا
۵۳۱۰- جَدَّوَةً چنگاری
۵۳۱۱- سَاطِئٍ کنارے
۵۳۱۲- بُعْعَةً مقام
۵۳۱۳- ذَانِكَ یہ دو
۵۳۱۴- اَفْصَحُ زیادہ فصیح، رواں
۵۳۱۵- رِدْءًا ساتھی،
تائید کرنے والا
۵۳۱۶- نَشْدُ ہم مضبوط کر دینگے
۵۳۱۷- عَضُدًا بازو، قوت
۵۳۱۸- لَا يَصْلُوْنَ نہ پہنچ سکیں گے
۵۳۱۹- اَوْ قَدِ اُگ تیار کر،
بھٹی لگا
۵۳۲۰- مَقْبُوْحِيْنَ بُرَانِ کتے کتے،
قباحت سے دیکھے گئے

سورۃ القاصص (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۲۱- طَاوَلْ دراز ہوئی،
طویل ہوئی
۵۳۲۲- ثَاوِيًّا رہنے والا
۵۳۲۳- وَصَلْنَا پے در پے کیا ہم نے
لگاتار بھیجا ہم نے
النصف
۵۳۲۴- لَا يَبْتَغِيْ سہ نہیں چاہتے
۵۳۲۵- نَتَّخِظُ اُجَلًا يَلِيْ جاتیں ہم
۵۳۲۶- بَطْرَتٌ اتر گئی،
اترنے لگی۔
۵۳۲۷- يَخْتَارُ پسند کرتا ہے
۵۳۲۸- خَيْرًا اختیار
۵۳۲۹- سَوِّمًا ہمیشہ
۵۳۳۰- ضِيَاءً روشنی
۵۳۳۱- تَنْوُءُ تھکا دی
۵۳۳۲- حَسَقْنَا دھنسا دیا ہم نے

پارہ نمبر (۲۹)

نمبر شمار عربی آردو
 ۵۳۳۳. دُفِکَانَ تَجِبَ ہے کہ،
 بات یوں ہے کہ
 ۵۳۳۲. فَرَضَ فَرْضَ کیا، حکم کیا
 ۵۳۳۵. رَأَى لُوٹانے والا
 ۵۳۳۴. مَعَاد واپس جانے کی جگہ
 مقامِ عظمت
 ۵۳۳۷. تَوَجَّوْا اُمید کرتا ہے تو

الثلة

العنكبوت (۲۹)

۵۳۳۸. اَلْاَبَاتِ ضرور آنے والا
 ۵۳۳۹. اُوذَى سنا یا جاتا ہے
 ۵۳۳۰. يَنْبَغِي پيدا کرتا ہے
 (مصدر: انشاء)

سورة العنكبوت (۲۹)

نمبر شمار عربی آردو
 ۵۳۳۱. تَقْلِبُونَ لُوٹا۔ تہ جاؤ گے
 ۵۳۳۲. حَزَبًا قَوْمًا جلاؤ والو
 ۵۳۳۳. نَادَى مجلس
 ۵۳۳۴. سِينَى ناخوش ہوا
 ۵۳۳۵. ذُرْعًا دل میں
 ۵۳۳۶. رَجْفَةً زلزلہ، بھونچال
 ۵۳۳۷. مُسْتَبْصِرِينَ بصارت رکھنے والے
 ہوشیار
 ۵۳۳۸. صَبِيحَةً دھاک، ہولناک آواز
 ۵۳۳۹. عَنكَبُوتٍ مکڑی
 ۵۳۴۰. اَوْهَنَ بہت کمزور
 یہاں تک لٹرنے آپ کو اپنی کتاب کے الفاظ
 یاد کر دیتے یہ اس کا فضل ہے اب تک
 رکوع کے نمبر دیتے جاتے تھے لیکن اب
 چونکہ آگے الفاظ کم ہوتے جاتے اس لئے
 رکوع کے نمبر دینا ممکن نہیں اب پاؤ آدھے
 پون کے نشانات حسب سابق دئے جاتے جو صرف
 پائے کے نشانات ہوں گے۔ (مؤلف)

پارہ نمبر (۳۰)

نمبر شمار عربی آردو

پارہ نمبر (۳۰)

۵۳۴۱. تَنَهَى روکے رکھتی ہے
 منع کرتی ہے
 ۵۳۴۲. لَا تَحْطُ نہیں لکھتا تو
 (مصدر: حط)

الروم (۳۰)

۵۳۴۳. غُلِبْتَ مغلوب کر دئے
 گئے، دب گئے
 ۵۳۴۴. اَذَى اَلْاَرْضِ قَرِيبِي مَوْقِعِ علاقہ
 یا ملک، سرحد کے
 قریب لگتی زمین۔
 ۵۳۴۵. سَيَقْلِبُونَ اب غالب ہوں گے،
 عقرب غالب
 ہوں گے۔

سورة الروم (۳۰)

نمبر شمار عربی آردو

۵۳۴۱. اُنْزِلُوا بویا، جوتا
 ۵۳۴۷. عَصَبُوا آباد کیا، بارونق
 بنایا۔
 ۵۳۴۸. رَوْضَةً باغ
 ۵۳۴۹. يُخْبِرُونَ بناؤ کر تے جاتیں گے
 آؤ بھگت کی جانتگی
 استقبال کیا جائیگا
 ۵۳۴۰. تَمَسُّونَ شام کرتے ہو
 (مساء: شام)
 ۵۳۴۱. نَظْهَرُونَ دوپہر کرتے ہو
 (ظہر: دوپہر)
 ۵۳۴۲. تَنْتَشِرُونَ چلتے پھرتے ہو
 پھیلے ہوتے ہو
 ۵۳۴۳. اُهْوُونَ بہت آسان

الرب

۵۳۴۴. مُبِينِينَ رجوع ہونے والے
 ۵۳۴۵. وَجْهَ اللّٰهِ الشَّرِيْ رِضَا
 ۵۳۴۶. رِبَا سُود، بیاج
 ۵۳۴۷. يَزْبُو بڑھ جاتے
 ۵۳۴۸. لَا يَزْبُوْنَ نہیں بڑھ سکتا

پارہ نمبر (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۴۹. يَكْفِدُ عُونَ جِدًا جِدًا هَوْنَ كَيْفَ
۵۳۵۰. يَهْمِدُونَ أَرَا سَتَه كَرَّ رَجَبٍ هَيْبِ

سنوارتے ہیں

۵۳۵۱. تُثَبِّرُ أَطْهَاتِي هَيْبِ

۵۳۵۲. وَدَقْنُ بَارِشِ

۵۳۵۳. مَقْمَرًا زَرْدِ

۵۳۵۴. مَضَعُ نَاوَانِي،

کمزوری

۵۳۵۵. شَيْبَةُ بُرْهَانِي

۵۳۵۶. يَسْتَعْبِدُونَ عَذْرَ قَبُولِ كَيْفِ

جائیں

(ع ت ب)

۵۳۵۷. لَا يَسْتَجِفُّنَ زَهْرًا شَرِيحًا

کرنے پائیں

اُچھال نہ دیں

سُورَةُ لُقْمَانَ (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

لُقْمَانَ
سُورَةُ

۵۳۷۸. لَقْنُ الْحَمَلِ نَيْتَ غَافِلِ كَرْنِ وَالِي

بات

۵۳۷۹. عَيْدِ سَتُونِ

النصف

۵۳۸۰. خَرَزْدَلِ رَانِي

۵۳۸۱. صَخْرَةَ بَيْتْرِ

۵۳۸۲. عَزْمِ الْأُمُورِ بَيْتِ كَيْفِ

۵۳۸۳. لَا تَصْعَقُ مَتْمُورًا

گال نہ پھلا

۵۳۸۴. نَحْدِ گَالِ

۵۳۸۵. مَحْتَالِ شَيْخِي كَهَارِ نِيوَالِ

۵۳۸۶. اِقْصِدْ دَرْمِيَانِي چَالِ كَرِ

۵۳۸۷. اَنْكُرِ بَيْتِ نَاطِنِدِ

۵۳۸۸. صَوْتِ آوَاذِ (الف)

(جمع: اَصْوَاتِ)

۵۳۸۹. اِسْبَغِ پُورَا كَيْفِ

پارہ نمبر (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۸۹. مَقْتَصِدُ اعْتِدَالِ بَرِ

درمیانی راہ پر

۵۳۹۰. نَحَّاسِ عَهْدِ كُوْتُوْرْتِ وَالِي

۵۳۹۱. بَجَائِنِ كَفَايَتِ كَرْنِ وَالِي

کام آنے والا

۵۳۹۲. غَيْثِ بَارِشِ مَيْمِنِ

۵۳۹۳. غَدَا أَنْتِ وَالِ اَكْلِ

۵۳۹۴. مَا تَنْزَرِي نَهِيں جَانَتَا

السَّجْدَةِ
سُورَةُ

۵۳۹۵. تَجَانِي عَلِيْمِدِه هَوْتِي بِيں

۵۳۹۶. نَسُوْقُ هَمِ بِيهِنِي تِي بِيں

ہم ہانک دیتے

ہیں۔

الثلاثة

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

الْاٰحْزَابِ
سُورَةُ

۵۳۹۷. جَوْفِ پِهْلُو، سَيْنِ

۵۳۹۸. اَوْدِي بَيْتِ تَعْلُقِ كَا حَقْدَارِ

۵۳۹۹. مَسْطُوْرًا لَكْهَا هُوَا

(س ط ر)

۵۴۰۰. حَنَاجِرِ نَزْرَعِ مَكَلِ

۵۴۰۱. اَنْبِيَا اَزْمَا يَا كَيْفِ

۵۴۰۲. يَكْتَرِبِ مَدِيْنَةِ طَيْبَةِ كَا

پُرَا نَا نَامِ

۵۴۰۳. اِقْطَارِ اطْرَافِ

(واحد: قَطْرُ)

۵۴۰۴. مَا تَلْبَسُوْنَ نَهِيں طْهَرِيں

۵۴۰۵. مَعْوَفِيْنِ رُوْكَنِ وَالِي،

زُكَاوْطِ دَالِنِ وَالِي

۵۴۰۶. هَلْمِ حَلِي آوِ

۵۴۰۷. اَشْحَاةِ بَيْخِي، كَبُوْسِي

۵۴۰۸. تَنْوُرِ كَهْوْتِي بِي چَكَرَاتِي بِيں

پارہ نمبر (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۰۹۔ جَلَّادٌ تیز تیز
۵۴۱۰۔ يَادُؤُنْ باہر ہنسنے والے،
باویہ نشین،
جنگل میں رہنے والے
۵۴۱۱۔ اَعْدَابٌ دیہاتی، کنوار
۵۴۱۲۔ نَحْبٌ نذر، منت،
ارمان۔
۵۴۱۳۔ صِيَاصِي قلعے، گڑھیں
۵۴۱۴۔ قَدَافٌ ڈال دیا
۵۴۱۵۔ نَطَوُ قدام رکھا تم نے
۵۴۱۶۔ سَوَاحِآ رخصت کرنا

پارہ نمبر (۲۳)

۵۴۱۷۔ تَبْرُجٌ بناؤ سنگھار
۵۴۱۸۔ وَطْرٌ حاجت
۵۴۱۹۔ رَوَّجْنَا بیاہ کر دیا ہم نے
۵۴۲۰۔ اَذْعِيَاءٌ مند بولے،
لے پالک

سورۃ الاحزاب (۳۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۲۱۔ اَيُّهَاً باپ
۵۴۲۲۔ يٰصَبِيَّوْ رَحمت بھیجتا ہے
۵۴۲۳۔ دَعُ نَظرا نڈاز کر دے
۵۴۲۴۔ اَفَاءٌ پھیر دیا،
مال غنیمت دیا
۵۴۲۵۔ تَزَوَّجُوْ ڈھیل دیوے تو
۵۴۲۶۔ تَوَّجُوْ توجہ دیتا ہے،
واپس طلب کر لیتا
ہے۔
۵۴۲۷۔ عَزَلْتُمْ ایک طرف کر دیا
تو نے، کٹا رہے
کر دیا۔
۵۴۲۸۔ رَوَّيْبًا نگہبان
۵۴۲۹۔ اِنَّا کینا
دکھانے کا پلٹنا،
۵۴۳۰۔ مَسْبَأُنْسِيْنَ جی لگا کر بیٹھنے
والے۔
۵۴۳۱۔ يٰصَلَوْنَ رَحمت بھیجتے ہیں
۵۴۳۲۔ صَلُّوْا درود بھیجو،
رَحمت بھیجو
۵۴۳۳۔ سَلِّمُوْا سلام بھیجو

پارہ نمبر (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۳۴۔ تَسْلِيْمًا فرمانبرداری بن کر
۵۴۳۵۔ يٰذِيْنَ نَبِيْنَ نزدیک کریں،
لٹکالیں،
گھونگھٹ نکالیں
۵۴۳۶۔ جَلَّابِيْبٌ چادریں
۵۴۳۷۔ مُرْجِفُوْنَ افواہ پھیلائیے والے
۵۴۳۸۔ نَغْرِيْبِيْنَ ہم مسلط کر دیں گے
۵۴۳۹۔ لَا يَجَاوِزُوْنَ نَبِيْسٌ نہیں پڑوس میں
رہ سکیں گے۔
۵۴۴۰۔ مَلْعُوْنَ نَبِيْنَ لعنت کئے ہوئے،
پھٹکارے ہوئے
۵۴۴۱۔ تَفْقُوْا پاتے جاتیں
۵۴۴۲۔ تَعْتِيْلًا کچل کر مار دے گئے

الرَّبِيع

۵۴۴۳۔ مَا يَدْرِيْكَ تَجھے کیا معلوم
۵۴۴۴۔ سَادَتْنَا ہمارے سردار
۵۴۴۵۔ كِبْرَاءُنَا ہمارے بڑے
۵۴۴۶۔ سَدِيْدٌ سیدھی،
ٹھیک

سورۃ سبا (۳۳)

نمبر شمار عربی اردو

سَبَا

۵۴۴۷۔ لَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ پوشیدہ
۵۴۴۸۔ مُسَوِّرٌ ریزہ ریزہ
۵۴۴۹۔ اَوْتِي رُجوع ہو جاؤ
۵۴۵۰۔ اَلْتَا نرہم کر دیا ہم نے
۵۴۵۱۔ سَبِغَتْ زریں، کوچ
۵۴۵۲۔ قَدِرٌ پکا کرو، مضبوط
صحیح اندازہ رکھو
۵۴۵۳۔ سَوْدٌ جوڑنا
۵۴۵۴۔ غَدَّ رُحَا صبح کی سیراس کی
۵۴۵۵۔ رَوَّحْنَا شام کی سیراس کی
۵۴۵۶۔ اَسَلْنَا بہا دیا ہم نے
۵۴۵۷۔ عَيْنُ الْقَطْرِ پھلے ہوئے تانبے کا
چشمہ
۵۴۵۸۔ مَحَارِبٌ بڑے بڑے قلعے
ادنیٰ محراب والی
عمارتیں۔
۵۴۵۹۔ تَمَاتِيْلٌ تصویریں،

سورۃ سبأ (۳۲)

نمبر شمار عربی اُردو

ڈزائن، نقشے

(واحد: تیشال)

۵۴۶۰۔ جَفَان لگن، تھال،

بڑے پیالے

۵۴۶۱۔ جَوَاب تالاب، حوض

۵۴۶۲۔ قُلُور دگیں

(قُلُور: واحد)

۵۴۶۳۔ مَرَسِیْلَت ایک جگہ گڑھی ہوتی،

رکھی ہوتی

۵۴۶۴۔ مِشْأَتُ عَصَاؤْس کا

۵۴۶۵۔ سَبِیْلُ الْعَرَم بہاؤ، زور کا

سیلاب

۵۴۶۶۔ ذَوَائِیْ والے (دولوں باغ)

۵۴۶۷۔ اُكُل میوہ

(دو باغ میوہ دار)

۵۴۶۸۔ حَمِطٌ بد مزہ، کڑوے

۵۴۶۹۔ اَتْلُ جھاڑ، جھاک

۵۴۷۰۔ سِدْرٌ سیر

۵۴۷۱۔ قُرْعٌ گھراہٹ ڈور کی

گتی

۵۴۷۲۔ الْحَقْمَةُ ملایا تم نے

سورۃ سبأ (۳۲)

نمبر شمار عربی اُردو

النصف

۵۴۷۳۔ مَوْتُوْنُ مَوْتُوْنُ کھڑے کئے جائیں گے

۵۴۷۴۔ عُرْفَاتُ بِالْاَفْلَکِ

۵۴۷۵۔ یُخْلِیْفُ عَوْضُ دیتا ہے،

بدلہ دیتا ہے

۵۴۷۶۔ مِعْشَارُ دسواں حصہ

عشر۔

۵۴۷۷۔ یَقْدِنُ ڈال دیتا ہے،

چوٹ لگاتا ہے

۵۴۷۸۔ فِزْعُوْا گھیر گئے

۵۴۷۹۔ لَا تُؤْتِیْ نہیں دینے کا موقعہ

(نہیں چھوٹے)

۵۴۸۰۔ تَنَّاوَسَ پہنچ، ہاتھ آنا،

حصول۔

۵۴۸۱۔ اَسْبِیَاعُ ہم خیال گروہ،

پیشوا،

پیش رو

سورۃ الفاطر (۳۵)

نمبر شمار عربی اُردو

الفاطر سورۃ

۵۴۸۲۔ اُوْنِیْ اَجْبَحْتَهُ زیاہ پر، پتھر والے

(واحد: جَنَاحُ)

۵۴۸۳۔ یَصْعَدُ پہنچتا ہے

۵۴۸۴۔ یُبْوَرُ ہلاک ہو جائے گا

۵۴۸۵۔ عَنَبٌ میٹھا، ہلکا اور

خوشگوار پانی،

خوشگوار، لذیذ

زودہ، مضمک کھانا۔

۵۴۸۶۔ قُرَاتٌ نفیس و شیریں

میٹھا پانی۔

۵۴۸۷۔ طَوْرِيًّا تازہ

۵۴۸۸۔ قَطْمِيرٌ کھجور کی گھلی کا چھلکا

الثلثه

۵۴۸۹۔ مُثَقَّلَةٌ بوجھ والی

۵۴۹۰۔ حَرُورٌ دھوپ

۵۴۹۱۔ خَلَا ہو گزرا

سورۃ الفاطر (۳۵)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۴۹۲۔ جَدُّ ٹکڑے، حصے

۵۴۹۳۔ بَيْضٌ سفید

۵۴۹۴۔ حَمْرٌ سُرخ

۵۴۹۵۔ عَرَابِيْبٌ بھونگ

گہرے سیاہ

۵۴۹۶۔ سُودُ کالے

۵۴۹۷۔ لَنْ تَبُوْرَ ہرگز برباد نہ ہوگی

۵۴۹۸۔ لُعُوْبٌ تھکان

۵۴۹۹۔ يَصْطَرُحُوْنَ خچ ہاریں گے

(ص س ر خ)

۵۵۰۰۔ مَقْتًا ناراضی

۵۵۰۱۔ اَنْ تَرُوْا کہ ڈھلک نہ

جائیں

۵۵۰۲۔ زَالَتَا ڈھلک گئے

دونوں

پارہ نمبر (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ یاسین (۳۶)

۵۵۰۳. مُفْجِرُونَ جگر پی ہوئی گردن

والے۔

۵۵۰۴. نَارِ نِشَانِیَاں

۵۵۰۵. اُحْصِیْنَا شِمَارِکَ رَکْہَاہِمَ نَے

۵۵۰۶. اَمَّاہِمُ شَمِیْئِیْنَ سَاہِنَے وَاضِح

۵۵۰۷. عَزَّزْنَا قُوَّتِ دِی ہِمَ نَے

پارہ نمبر (۳۳)

۵۵۰۸. لَا یَنْقُذُونَ ہِمِیں چھڑا سکیں

گے مجھ۔

۵۵۰۹. لَدُنَّا ہِمَارَے نَزْدِیْک

۵۵۱۰. نَسْتَحْ اُتَار لیتے ہیں

۵۵۱۱. مُظْلَمُونَ اندھیرے میں رہ

گئے وہ۔

سورۃ یس (۳۶)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۵۱۱. تَقْلِیْدُو اِنْدازہ

۵۵۱۲. عَادَ ہُوگیَا دِلُوٹنَا

۵۵۱۳. عُرْجُوْنَ شَاخِ، پُہنی

۵۵۱۴. قَدِیْمَہ قَدِیْمِ، پُرانی

۵۵۱۵. یَسْبُحُونَ تِیرتے ہیں

۵۵۱۶. صَیْبِیْحَ فَرِیَا دَرَس

۵۵۱۷. یَخْضَمُونَ لُٹتے جھگڑتے

ہوں گے وہ۔

۵۵۱۸. تُوْصِیْتِہ وَصِیْتِ کرنا

۵۵۱۹. اَجْدَاثِ قَبْرِیں

۵۵۲۰. یَنْسِلُونَ دُوڑتے ہوں گے

۵۵۲۱. سَمَرَقَدَا سونے کی جگہ،

خواب گاہ، قبر

۵۵۲۲. فِی شُغْلِ مَشْغُولِں میں

۵۵۲۳. لَذَّتْ حَاصِل

کرنے والے

۵۵۲۴. فَاکْہَمَہ "میوہ"

۵۵۲۵. اِمْتَازُودَا جُلا ہو جاؤ

۵۵۲۶. حَبِیْلَا مَحَلُوْقَاتِ،

بھاری گروہ

۵۵۲۷. اِضْلُوْا وَاخْل ہو جاؤ

پارہ نمبر (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۵۲۸. طَمَسْنَ مٹا دینا، ملیا سیٹ

کردینا۔

۵۵۲۹. مَسَخَ صَوْرَتِ ہَدَل

دینا۔

۵۵۳۰. نُنَکَسْنَ ہِمِں کُڑا بنا دیتے

ہیں۔

۵۵۳۱. مَا یَنْکِبُنِیْ ہِمِیں مَنَاسِبِ،

نہیں لائق

۵۵۳۲. ذَلَّلْنَا تَاہِجِ کُردیا ہِمَ نَے،

قابو میں دیا ہِمَ نَے

۵۵۳۳. رُکُوْبِ سَوَارِی

۵۵۳۴. رَمِیْمَہ بُو سِیْدَہ،

گلی ہوئی

۵۵۳۵. اُخْطِیْو گہری سبز

۵۵۳۶. تُوْقِدُونَ تَمِروشن کرتے ہو،

جلا تے ہو۔

سورۃ الصف (۳۷)

نمبر شمار عربی اُردو

الصف (۳۷)

۵۵۳۷. نَجْرَاتِ رُوکے، مَنَحَ کرنے،

دفع کرنے، ڈانٹنے

والی۔

۵۵۳۸. زَجْرًا ڈانٹنا، روکنا،

مَنَحَ کرنا، دفع کرنا

۵۵۳۹. تَلَاوْتِ تِلَاوَتِ کرنا

۵۵۴۰. دُحُوْرًا دھکے دینے جانا

۵۵۴۱. وَاَصْبِ دَانِی

۵۵۴۲. ثَقَابِ چمکنا ہوا

۵۵۴۳. لَأَزْبِ چپکتی

۵۵۴۴. اِخْرُوْنَ ذَبِیلِ ہوئی ہوا

الربع

۵۵۴۵. سُورًا تَحْتَ

(سُورًا: واحد)

۵۵۴۶. مَتَقَابِلِیْنَ آہستے آہستے

۵۵۴۷. کَاسًا پِیَالَہ، جام

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۳۸۔ غُولُ سرچکرا نا، دروسر
 ۵۵۳۹۔ یَنْزُفُونَ بدرہوش، بدست
 ۵۵۴۰۔ قَصَبَاتٍ نیلی رکھنے والیاں
 ۵۵۴۱۔ طُرُفٌ نگاہ
 ۵۵۴۲۔ بَيْضٌ بیضے، سفیدانٹے
 ۵۵۴۳۔ مَلَكُوتٌ حفاظت میں رکھے
 ہوتے۔
 ۵۵۴۴۔ مَدَائِنُهُنَّ جزادے جانے والے
 ۵۵۴۵۔ تَزْدَرِيْنَ ہلاک کیا تھا تو نے
 مجھے۔
 ۵۵۴۶۔ مُخَضَّبِيْنَ گرفتار شدہ لوگ
 ۵۵۴۷۔ زُقُومٌ سینڈھ کا درخت
 ۵۵۴۸۔ مَائِنُونَ بھرنے والے
 ۵۵۴۹۔ شَوْبًا مِلوٹی، ملا کر
 ۵۵۵۰۔ حَبِيْمًا کھولتا ہوا پانی
 ۵۵۵۱۔ يَهْرَعُونَ دوڑنے لگے
 ۵۵۵۲۔ مُنْذِرِيْنَ ڈرانے والے
 ۵۵۵۳۔ مُنْذِرِيْنَ جن کو ڈرایا گیا
 ۵۵۵۴۔ مُجِيبُونَ قبول کرنے والے
 ۵۵۵۵۔ كَتَبٌ سستی
 ۵۵۵۶۔ سَقِيْمٌ بیمار

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۴۷۔ فِرَاقٌ پس ٹوٹ پڑا
 ۵۵۴۸۔ يَزْفُونَ دوڑے ہوئے
 ۵۵۴۹۔ تَخْتَبُونَ تم تراشتے ہو
 ۵۵۵۰۔ اَسْمَاءُ دونوں فرمانبردار
 ہوتے۔
 ۵۵۵۱۔ نَلٌّ پچھاڑ دیا
 ۵۵۵۲۔ بَجِيْدٌ مانتے کے بل
 ۵۵۵۳۔ مُسْتَبِيْنَ مفصل بیان کرنے
 والی۔
 ۵۵۵۴۔ بَعَلًا سائی قوم کے ایک
 بُت کا نام۔
 ۵۵۵۵۔ اَبْنٌ بھاگ گیا
 ۵۵۵۶۔ سَاهِمٌ قرعہ میں شریک ہوا
 ۵۵۵۷۔ مُدْحَفِيْنَ دھیلے گئے
 ۵۵۵۸۔ اِنْقَمَ لقمہ کر لیا، نکل لیا
 ۵۵۵۹۔ حُوتٌ مچھلی
 (جمع: حِيْتَانٌ)
 ۵۵۶۰۔ عَرَاءٌ بغیر گھاس والی
 بیابان جگہ

النصف

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۸۱۔ يَقَطِيْنَ بیل دار درخت
 کدو کی بیل۔
 ۵۵۸۲۔ قَبِيْنٌ بہکانے میں کامیاب
 ۵۵۸۳۔ صَالٌ جانے والا،
 داخل ہونے والا
 ۵۵۸۴۔ صَاخُوْنَ صف باندھنے والے
 ۵۵۸۵۔ سَاحَتْ اَنكِن، علاقہ،
 میدان
 ۵۵۸۶۔ لَاتٌ نہیں تھا
 ۵۵۸۷۔ حِيْنَ وقت
 ۵۵۸۸۔ مَنَاصٌ خلاصی کا
 ۵۵۸۹۔ اِخْتِلَاقٌ گھڑی ہوئی بات
 ۵۵۹۰۔ يَزْكُوْا وہ چڑھ جائیں گے
 ۵۵۹۱۔ مَهْرُومٌ شکست کھاتے ہوئے
 ۵۵۹۲۔ اَوْتَادٌ میخیں، کھوپٹیاں
 ۵۵۹۳۔ عَقَابٌ عذاب، پکڑ
 ۵۵۹۴۔ قَبِيْلٌ بیل دار درخت
 کدو کی بیل۔
 ۵۵۹۵۔ اَلْاَيُّدِ ہاتھ والا،
 طاقت ور۔
 ۵۵۹۶۔ فَضْلٌ اَلْغَطَابِ فيصلہ کن تقریر
 ۵۵۹۷۔ تَسْوَرُوْا دیوار چڑھ آئے
 ۵۵۹۸۔ مِحْرَابٌ حضرت داؤد علیہ
 السلام کی قیام گاہ
 کے لئے یہ لفظ استعمال
 کیا گیا ہے۔
 ۵۵۹۹۔ فَرَغَ ڈر گیا
 ۵۶۰۰۔ لَا تَسْطُطُ نا انصافی مت کر
 ۵۶۰۱۔ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نو اور نو سے
 تَسْعُ وَتَسْعُونَ
 یعنی ننانوے
 ۵۶۰۲۔ نَفَجَةٌ ذُئْبٍ، بھیڑ
 ۵۶۰۳۔ اَلْقَلْبِيْ سونپ دے مجھے
 ۵۶۰۴۔ عَزْرٌ دباؤ ڈالا
 ۵۶۰۵۔ خُلَاطَاءٌ ساتھی
 ۵۶۰۶۔ فُجَّارٌ بدکار

سورۃ (۳۸)

پارہ نمبر (۲۳۷)


نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۰۷. عَرْضُ پیش کئے گئے
 ۵۹۰۸. طُفِئَتْ الْجَمَادُ اعلیٰ نسل کے ابلق گھوڑے،
 ایک پاؤں پر
 کھڑے ہونے والے
 ۵۹۰۹. تَوَارَتْ چھپ گیا (سورج)
 ۵۹۱۰. مَسْحًا ہاتھ پھیرا
 ۵۹۱۱. سُمُوقٌ پنڈلیاں
 ۵۹۱۲. اَعْنَاقٌ گردنیں
 ۵۹۱۳. جَسَدًا جسم، دھڑ
 ۵۹۱۴. مِرْحَاءٌ ملائم، نرم
 ۵۹۱۵. حَيْثُ اَصَابَ جہاں پہنچنا چاہا
 ۵۹۱۶. بِنَاءٌ عمارت بنانے والا
 ۵۹۱۷. غَوَاصٌ غوطہ خور
 ۵۹۱۸. تَرْتَفِي تَقَرَّبٌ، نزدیکی
 ۵۹۱۹. حُسْنٌ قَابٌ اچھا ٹھکانہ
 ۵۹۲۰. نَصَبٌ تکلیف، ایذا
 ۵۹۲۱. اَمْرٌ كَصٌّ پیر بار
 ۵۹۲۲. مَسْئَلٌ نہانے کا پانی
 ۵۹۲۳. ضِعْفًا جھاڑو،
 سینکوں کا مٹھا

سورہ ص (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۲۴. لَا تَحْنُثُ قسم نہ توڑ
 ۵۹۲۵. اُخْتِيَارٌ بہتر لوگ،
 نیک لوگ
 ۵۹۲۶. اُتْرَابٌ ہم عمر

الثلثة

۵۹۲۷. نَفَادٌ ختم
 ۵۹۲۸. غَشَاقٌ پیپ زخموں کا
 دھوؤں۔
 ۵۹۲۹. مَقْنَعٌ داخل ہونے والی
 ۵۹۳۰. اَلْمَرْحَبَا خوش نہ ہو،
 ناس ہو
 ۵۹۳۱. صَالُوًا داخل ہوتے
 ۵۹۳۲. اَشْوَارٌ شریہ (رجع)
 ۵۹۳۳. سَبْحَرِيًّا ہنسی میں اڑایا
 ۵۹۳۴. مَلَاءِ اَلْاَعْلَىٰ سردار، اعلیٰ افسر
 بلند مرتبہ والے
 ۵۹۳۵. مُتَكَلِّفِيْنَ بناوٹ کرنے والے



پارہ نمبر (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو

الزمر (۳۹)

۵۹۳۶. يُكْرَهُ پیتتا ہے
 ۵۹۳۷. سَاوَانٌ سامان دیا
 ۵۹۳۸. مَبْنِيَّةٌ بنے بنائے
 ۵۹۳۹. سَلَكٌ چلایا، جاری کیا
 ۵۹۴۰. يَبِئَاتُ بِعِجْ حشمے
 ۵۹۴۱. يَرْوِجُ خشک ہوتا ہے،
 زور پر آتا ہے
 ۵۹۴۲. حُطَامًا ریزہ ریزہ
 ۵۹۴۳. مُتَشَاوِهًا ملتے جلتے، یکساں
 ۵۹۴۴. مَثَانِيٌّ بار بار دہرائی
 جانے کے قابل
 ۵۹۴۵. تَفْشَعْرٌ رونگٹے کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔
 ۵۹۴۶. تَلْدِيْنٌ نرم ہو جاتے ہیں
 ۵۹۴۷. غَيْرُ ذِي عِوَجٍ بن ٹیڑھ والا،
 سیدھا، کوئی کمی نہیں

سورۃ الزمر (۳۹)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۴۸. مُتَشَاكِسُوْنَ ہا ہم جھگڑنے والے
 ضد اضدیٰ کرنے والے
 ۵۹۴۹. سَلَمًا پورا، مسلم، ایک کا
 ۵۹۵۰. مَيِّتٌ میت، مرے والا
 ۵۹۵۱. مَيِّتُوْنَ مرنے والے

پارہ نمبر (۳۹)

۵۹۵۲. اِنَّهُمْ عَزَّتْ نَفرت کرتے ہیں
 ۵۹۵۳. يُحْصِيْنَ قِيَّ ہاتے افسوس
 ۵۹۵۴. قَرِطٌ تقصیر کرنا
 ۵۹۵۵. جَنْبِ اللّٰهِ خدا کے بارے
 میں۔
 ۵۹۵۶. مَعَالِيْدٌ کنجیاں
 ۵۹۵۷. مَطْوِيَّتٌ پلٹے ہوئے
 ۵۹۵۸. صَعِقٌ بے ہوش ہونا
 ۵۹۵۹. اِنَّهُ قَتُّوْا چمک
 اٹھے گی۔

پارہ نمبر (۶۷۳)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۶۰. وُضِعَ رُكْحًا يَأْتِي (ساٹنے)
(دفعل مچھوں)
۵۴۶۱. جَاءَ لِي لَأَيَّامًا كَثِيرًا
حاضر کیا جائے گا
۵۴۶۲. سَيَبْقَىٰ بِالنَّارِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
ہانک دیا جائے گا
۵۴۶۳. سُرْمًا غَدَّاءٌ كَثِيرًا
گروہ، ٹولی
۵۴۶۴. حَزْنًا رَاحًا وَرَاحًا
چوکیدار، داروغہ
۵۴۶۵. طَبَقًا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
خوشحال رہے تم
۵۴۶۶. حَافِيًا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
حلقہ باندھے
ہوں گے۔

الربع

(۴۰)
المومن
سورة

۵۴۶۷. ذِي الطَّوْلِ اِنْعَامًا دِينًا
۵۴۶۸. تَلَاقًا مَلَأَتْ
۵۴۶۹. بَرْنًا دُونَ مَوْجِدٍ هُمْ
۵۴۷۰. يَطَّاعُونَ كَهَانًا نَاجِيًا

سورة المومن (۴۰)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۶۱. اٰزِيْفَةً قَرِيْبًا اِيْوَالِي
۵۴۶۲. وَاِيْقِي بِيْحَانِي دَالِي
۵۴۶۳. ظَهْرِيْنَ غَالِبًا يَوْمِيْنَ
۵۴۶۴. يَوْمِ التَّنَادِ دِنِ الْاٰزْدِيْنَ كَا
(اس دن کثرت
سے آوازیں ہونگی)
۵۴۶۵. تَبَابِ هَلَاكِ
النصف
۵۴۶۶. اِقْوَمِيْنَ سِيْرًا كَرِيْمًا
۵۴۶۷. مِيْسِيْنَ بَرًّا كَرِيْمًا
والا۔
۵۴۶۸. سَلْسِلًا زَٰخِرِيْنَ
۵۴۶۹. يَسْحَبُوْنَ كَسِيْفًا جَانِيْنَ
۵۴۷۰. يَسْحَبُوْنَ جَهَنَّمَ دِيْنَ
جائیں گے۔

پارہ نمبر (۴۱)

نمبر شمار عربی اردو

(۴۱)
السجدة
سورة خم

الثلثة

۵۴۸۱. غَيْرُ مَكْنُوْنٍ نَّهِيْنًا مَوْقُوْتٍ
ہونے والا
۵۴۸۲. اِقْوَاتٍ قُوْتٍ
۵۴۸۳. دُخَانٍ دَهْوَانٍ
۵۴۸۴. طَائِفِيْنَ خَوْشِيٍّ سَعِيْدِيْنَ
۵۴۸۵. تَنْدُوْتِيْنَ زَوْرًا
آنڈھی، جس میں
مصر کی آواز ہوتی
ہے۔

۵۴۸۶. يُوْزَعُوْنَ تَرْتِيْبًا مِمَّا كُنْتُمْ
کئے جائیں گے
۵۴۸۷. تَسْتَبِيْحُوْنَ مِمَّا كُنْتُمْ
۵۴۸۸. تَسْتَبِيْحُوْنَ تَوْبَةً كَرِيْمًا
۵۴۸۹. مُعْتَبِيْنَ تَوْبَةً يَاعْزُرُوْنَ
کئے جائیں گے

سورة السجدة (۴۱)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۹۰. قِيَضْنَا مَقْرُرًا دِيْا مِمَّا
۵۴۹۱. كُنَّا مِمَّا نَشِيْنًا
۵۴۹۲. اَلْعَوَا شُوْرًا
۵۴۹۳. اَسْوَا بَدْرًا
۵۴۹۴. اَسْفَلِيْنَ نِيْحًا مَرَّةً
خوب ذلیل
ہونے والے۔
۵۴۹۵. مَا سْتَهْمِيْ بُوْحَابِيْ
خواہش ہو
۵۴۹۶. نُرْعًا وَسُوْرًا
۵۴۹۷. اَلَا يَسْتَهْمُوْنَ نَهِيْنًا مِمَّا
نہیں تھکتے
۵۴۹۸. خَاشِعَةً دِيْا مِمَّا
۵۴۹۹. دُوْعًا عَقَابًا عَذَابًا دِيْنَ
والا۔

نمبر شمار عربی اردو

پارہ نمبر (۲۵)

۵۴۰۔ اَلْكِتَابُ غلاف، نول
۵۴۱۔ اَذُنًا بتا دیا ہم نے
۵۴۲۔ عَرِيضٌ لمبی، چوڑی
۵۴۳۔ اَفْئَاتٌ گرد و نواح،
آس پاس

الشوری (۲۲)

۵۴۴۔ يَنْفَعُونَ پھٹ پڑیں گے
۵۴۵۔ يَذْرَؤُا پھیلاتا ہے
۵۴۶۔ شَيْعٌ مقرر کیا
۵۴۷۔ كِبْرٌ بھاری ہو
۵۴۸۔ اِحْصَاہُ باطل، پچلی ہوتی
۵۴۹۔ يُبَارِزُونَ جھگڑتے ہیں
۵۵۰۔ مَوَدَّةٌ دوستی، چاہت

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۱۔ يَبْسُجُ مٹا دیتا ہے
۵۴۲۔ غَيْثٌ بارش، مینہ

الرابع

۵۴۳۔ جَوَاسٌ چلنے والے جہاز
۵۴۴۔ اَعْلَامٌ اونچے پہاڑ
۵۴۵۔ يَطْلُبْنَ ہوجائیں
۵۴۶۔ سِرٌّ وَاكِنٌ چھپے ہوئے
۵۴۷۔ يُوْبِقِي ہلاک کر دے گا
۵۴۸۔ شَوْرَا مشورہ
۵۴۹۔ نَكِيرٌ انکار
۵۵۰۔ يَزْرُجُ ملا کر دیتا،
جمع کر دیتا،
جوڑا دیتا ہے
۵۵۱۔ عَقِيْمًا بانجھ
۵۵۲۔ تَصِيْرٌ پھیرے جائیں گے

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۳۸۔ مُسْقَفًا چھت
۵۴۳۹۔ رِضَّةٌ چاندی
۵۴۴۰۔ مَعَارِجٌ بیڑھیاں
۵۴۴۱۔ يَطْفُرُونَ چڑھتے اترتے
۵۴۴۲۔ رُحْرُفًا چمک دمک ہونے کی
۵۴۴۳۔ يَعْشُرُ اندھا بنتا ہے،
آنکھ پڑتا ہے۔
۵۴۴۴۔ بُعِدَ دُورِی
۵۴۴۵۔ مُشْتَرِكُونَ آپس میں ساتھی
شُرکت کرنے والے
۵۴۴۶۔ مُقْتَرِنِينَ پُرانا بندھ کر،
آردلی بن کر
۵۴۴۷۔ اسْتَحْفَفَ سبک کر دیا،
گھبرادیا
۵۴۴۸۔ اسْفُؤا غصہ دلایا انھوں نے
۵۴۴۹۔ يَصِدُّونَ تالیاں بجاتے ہیں،
غل مجاتے ہیں
۵۴۵۰۔ يَخْلُقُونَ جانشین رہتے
۵۴۵۱۔ لاَ تَمْتَرُونَ مت شک کرو
۵۴۵۲۔ اَخْلَاءٌ دوست
(واحد: خَلِيْلٌ)

نمبر شمار عربی اردو

الخرف (۲۳)

۵۴۴۳۔ اُمُّ الْكِتَابِ مرکزی کتاب
۵۴۴۴۔ صَفْحًا پٹا لینا
۵۴۴۵۔ بَطْشًا سخت پکڑ
۵۴۴۶۔ مَضَى ہو گذری
۵۴۴۷۔ تَشْتَوُونَ سوار ہو جاؤ تم
۵۴۴۸۔ مُقَرَّبِينَ قابو میں لینے والے
۵۴۴۹۔ جُرْعَةٌ حصہ، پارہ
۵۴۵۰۔ يُلْشَوُا آرائش کی جاتی ہے
۵۴۵۱۔ حَلِيَّةٌ زیورات، گینے
۵۴۵۲۔ مُسْتَمْسِكُونَ مضبوطی سے پکڑنے
والے۔
۵۴۵۳۔ مُقْتَدُونَ پیروی کرنے والے
۵۴۵۴۔ بَرَآءٌ بیزار، الگ
۵۴۵۵۔ قَطْرٌ پیدا کیا
۵۴۵۶۔ قَرْنَيْنِ دو بستیاں
۵۴۵۷۔ سُحْرِيًّا کام میں لانا،
مستور کرنا

پارہ نمبر (۳۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۵۳۔ صحاف بڑی رکابیا، تھال
۵۴۵۴۔ اَلْاَوَابُ اَبْ خورے
۵۴۵۵۔ تَلَدًا لذت چاہیں
۵۴۵۶۔ لَا يُفَعَّرُوْا نہیں ہکا کیا جائیگا
نہیں سُست ہوگا
۵۴۵۷۔ اَبْرُمُوْا انھوں نے مقرر کیا
۵۴۵۸۔ مُبْرَمُوْنَ مقرر کرنے والے

الدخان (۳۴)

۵۴۵۹۔ يُفَرِّقُ جُدا کیا جاتا ہے
۵۴۶۰۔ اِنْرَاقِبْ منتظر رہ
۵۴۶۱۔ دُخَانَ دھواں
۵۴۶۲۔ مُعَلَّمٌ سکھایا ہوا
۵۴۶۳۔ عَائِدُوْنَ پھر کرئیوے
۵۴۶۴۔ اَدْوَا ساتھ بھیج دو

الثلثة

۵۴۶۵۔ اَسْوَى لے چل

پارہ نمبر (۳۵)

نمبر شمار عربی اردو

الجاثية (۳۵)

۵۴۷۸۔ يُصَوِّرُ اصرار کرتا ہے،
ضد کرتا ہے
۵۴۷۹۔ اِحْتَرِجُوْا کرتے ہیں
۵۴۷۸۔ ذَهْرٌ گروش،
زمانہ
۵۴۸۱۔ جَاثِيَةٌ زانوں کے بل
گرمی ہونی
۵۴۸۲۔ نَسْتَسْخِحُ ہم لکھواتے ہیں،
(مصدر: اِسْتَسْخَا)
۵۴۸۳۔ مَا نَدْرِي ہم نہیں جانتے
۵۴۸۴۔ مُسْتَقْبِلِيْنَ یقین کرئیوے
۵۴۸۵۔ اِسْتَيْقَانٌ مصدر
(یقین)

سورة الجاثية (۳۵)

نمبر شمار عربی اردو

پارہ نمبر (۳۴)

احقاف (۳۴)

۵۴۸۶۔ اَنْزَلْنَاهُ دلیل، نشان
۵۴۸۷۔ بَدَلْنَا نیا، انوکھا
۵۴۸۸۔ كَرِهْنَا تکلیف
۵۴۸۹۔ تَلْثَوْنَ تیس
۵۴۹۰۔ نَلْجَاوْا ہم درگزر کریں گے
۵۴۹۱۔ اَذْهَبْتُمْ لے چکے تم
۵۴۹۲۔ اِحْقَافٌ ریگستان
۵۴۹۳۔ عَارِضًا بادل، گھٹا
۵۴۹۴۔ مُسْتَقْبِلِ سائے آئیوے
۵۴۹۵۔ اَوْدِيَةٍ وادیاں، میدان
ندی نالے
۵۴۹۶۔ قُرْبَانًا تقرب کا ذریعہ
پہنچ
۵۴۹۷۔ نَقَرْنَا جماعت، ٹولی،
گروہ

پارہ نمبر (۲۶)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۷۹۸۔ یَجْرِي كُمْ پناہ دے گا تم کو
۵۷۹۹۔ لَمْ يَجْعَلْ وہ نہیں تھکا

الربیع

سورۃ محمد (۲۷)

۵۸۰۰۔ اُضَلَّ بے راہ کر دیا
۵۸۰۱۔ كُفِّرَ دُور کر دیا
۵۸۰۲۔ اُصْلَحَ درست کر دیا
۵۸۰۳۔ بَالَ حال، کیفیت
۵۸۰۴۔ ضَرَبَ بِالرِّجَالِ گردنیں مارنا
۵۸۰۵۔ اَتَّخَذْتُمْ خوب کچل ڈالا ہو
تم نے۔
۵۸۰۶۔ تَخَنَّنَ خوریزی کرنا،
کچل ڈالنا
۵۸۰۷۔ وَثَّقَ قید کرنا، باندھنا
۵۸۰۸۔ فِدَاءٌ فدیے کے چھوڑ دینا
۵۸۰۹۔ عَرَفَ پہچان کرادی

سورۃ محمد (۲۷)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۸۱۰۔ تَعَسَا گر کر ہلاک ہونا
۵۸۱۱۔ غَدِرَ اَسْنِ بن بگڑا ہوا،
کبھی نہ بگڑے ہوا
۵۸۱۲۔ حَمَّرَ (دانگوری) شرب
۵۸۱۳۔ عَسَلَ شہد
۵۸۱۴۔ اَمْعَاءُ انتڑیاں
۵۸۱۵۔ اِنْفَا اِجھن اِجھن
۵۸۱۶۔ اَشْرَاطُ علامتیں
۵۸۱۷۔ مَعْشَى بے ہوشی چھا گئی ہو
۵۸۱۸۔ اُوْدَى خرابی
۵۸۱۹۔ اِقْفَالَ تالے
(قَفْلٌ) دکی جمع
۵۸۲۰۔ سَوَّلَ بات بنانی، پکڑ دیا
۵۸۲۱۔ اَمَلَى دُور کی بھائی
۵۸۲۲۔ اَسْوَأَ آہستہ، پوشیدہ
مشورہ، خفیہ،
چھپا بھید
۵۸۲۳۔ اَضْعَانَ بدلتی ڈھب
۵۸۲۴۔ لَحْنُ الْقَوْلِ طرز کلام، بات کا
۵۸۲۵۔ لَنْ يَأْتِيَ نہیں کمی کرے گا
۵۸۲۶۔ يُحْفَفُ تنگ کرے

پارہ نمبر (۲۷)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الفتح

۵۸۲۷۔ تَقَلَّامُ پہلے ہو چکا
۵۸۲۸۔ تَأَخَّرُ پیچھے ہوا
۵۸۲۹۔ ظَائِنِينَ گمان کرنے والے،
انگل کرنے والے
۵۸۳۰۔ تَعَزَّزُوا تم ساتھ دو،
تم قوت دو
۵۸۳۱۔ نُؤَيِّدُوكُمَا تم ادب کرو
۵۸۳۲۔ مَعَانِدَ مالِ غنیمت

النصف

۵۸۳۳۔ اُظْفَرَ قابو دیا
۵۸۳۴۔ اَلْهَدَىٰ قربانی کے جانور
۵۸۳۵۔ مَعَكُونًا رُکا ہوا
۵۸۳۶۔ لَطْمًا کچل ڈالنے کے
۵۸۳۷۔ مَعْرَةً تکلیف، خرابی
۵۸۳۸۔ تَزَيَّلُوا جُدا ہو جاتے
۵۸۳۹۔ حَبِيَّةٌ غلط خیالات، عار

سورۃ الفتح (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو
نادانی کی ضد
۵۸۴۰۔ اَلْزَمَ لازم کر دیا،
لگائے رکھا
۵۸۴۱۔ مُخَلِّعِينَ منڈوا دینا
(حل ق)
۵۸۴۲۔ مُقَصِّرِينَ کتروانے والے
(ق ص س)
۵۸۴۳۔ سِيمًا نشانی، بانا
۵۸۴۴۔ شَطَطًا پٹھا،
سوئی
کونپل
۵۸۴۵۔ اَمْرًا قوت پکڑی،
کمر مضبوط ہوئی
۵۸۴۶۔ اِسْتَقَاطَ موٹا ہوا
۵۸۴۷۔ سَوَقًا کھیتی کی جڑیں،
نال، ڈٹھل

پارہ نمبر (۲۳۷)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الحجرات (۲۴)

۵۸۳۸. اِمْتَحَنَ خاص کر لیا
 جارح لیا
 ۵۸۳۹. نَفَعٌ پھر آئیں،
 رجوع ہو جائیں

المثلثۃ

۵۸۵۰. لَا تَلْمِزُوا مت عیب لگاؤ
 ۵۸۵۱. لَا تَنَابِزُوا مت برے نام
 دھرو۔
 ۵۸۵۲. لَا تَجَسَّسُوا جاسوسی نہ کرو
 ۵۸۵۳. لَا يَغْتَابَنَّ غیبت کریں
 ۵۸۵۴. لَا يَلْمِزَنَّ نہیں کم کرے گا



سورۃ ق (۵۰)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ ق (۵۰)

۵۸۵۵. مَرِيحٌ اُلجھن میں ڈالنے
 والا۔
 ۵۸۵۶. فُرُوجٌ شکاف
 ۵۸۵۷. لِبْقَاتٍ لبی لبی، اونچی
 تہ بہ تہ، گوندھے ہوئے
 ۵۸۵۸. اَصْفَادٌ تہ بہ تہ، گوندھے ہوئے
 ۵۸۵۹. عَيْنَيْنَا ہم تھک گئے
 ۵۸۶۰. حَبْلِ الْوَرِيدِ رگ گردن
 ۵۸۶۱. عَتِيدٌ تیار
 ۵۸۶۲. سَكْرَةٌ بے ہوشی، جان کنی
 سکرات
 ۵۸۶۳. تَجِينُ تونکارہ کرنا ہے،
 بھاگتا ہے
 ۵۸۶۴. غَطَاءٌ پردہ
 ۵۸۶۵. هَلَا مَسَلَاتٌ کیا بھر گئی تو
 ۵۸۶۶. نَقَبُوا چھان ڈالا

پارہ نمبر (۲۳۸)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الذریت (۵۱)

۵۸۶۷. ذَرِيَّتٍ بچھرنے والیاں
 ۵۸۶۸. ذُرْوًا بچھرنا
 ۵۸۶۹. وَقْرًا بوجھل
 ۵۸۷۰. جُرِيَّتٍ جلنے والیاں
 ۵۸۷۱. مَقْسِمَاتٍ تقسیم کرنے والیاں
 ۵۸۷۲. حَبَابٍ راہیں،
 جالی دار
 ۵۸۷۳. حَرَاطُونَ اٹکل مارنے والے
 ۵۸۷۴. يُفْتَنُونَ گرفتار کئے
 جائیں گے۔
 ۵۸۷۵. يَهْجَعُونَ سوتے تھے
 ۵۸۷۶. صَوْتًا حیرت
 ۵۸۷۷. صَكَّتْ با تھ مارا



سورۃ الزمات (۵۱)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر (۲۳۹)

۵۸۷۸. رُكْنٌ رکن سلطنت،
 طاقت
 ۵۸۷۹. ذُنُوبًا دُبر سے دن کی،
 باری دپائی بھرا ڈول
 یا پاپ کا گڑا بھر گیا
 انجام، نتیجہ،
 بُرے دن

سورۃ الزمات (۵۱)

۵۸۸۰. رَرَقٌ ملائم کاغذ
 ۵۸۸۱. مَسْتَوِدٌ کھلا ہوا
 ۵۸۸۲. بَيْتٌ الْمُعْوَرُ آباد گھر
 ۵۸۸۳. مَسْجُورٌ جھونکا ہوا
 اُبتلا ہوا،

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

سُـلْـكُ جَانِے دَالَا
مَوْجِزِن -
۵۸۸۳- ذَا فِیْغُ ہِطَانِے دَالَا
۵۸۸۵- مَوْرَآءُ تَھَرَانَا
۵۸۸۶- دَعَا دَھْکَے دِیْنَا
۵۸۸۷- مَا اَلْتَنَّا نَہِیْنِ کَمَ کِیَا ہِمَ نَے
۵۸۸۸- مَرَّھِیْنِ اِگْرِ قَتَارِ
۵۸۸۹- رَیْبُ الْمَوْتِ حَادِثَہٗ مَمُوتِ
۵۸۹۰- اَحْلَامُ عَقْلِیْنِ
۵۸۹۱- طَاعُوْنَ سُرْکَشِ
۵۸۹۲- تَقْوَلْ بَاتِ بِنَا یَا ہُو تَا وِہ
۵۸۹۳- مُصِیْبُ رُوْنِ ذَمَّے دَارِ،
دَار وِغْرِ دَرَجِ حِ
۵۸۹۴- مُتَقَلِبُوْنَ بُو جِھِے سَے دِے
ہُو سَے۔
۵۸۹۵- اَعِیْنِنَا ہِمَارِی نَکْرَانِی مِیْنِ
۵۸۹۶- اِذْ بَارِ پِیچھے جَانَا،
پِیچھے دِیْنَا۔

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

النجم (۵۳) سورۃ

۵۸۹۷- هُوَی گَرَا
۵۸۹۸- ذُو مِرَّةٍ طَاقَتِ وِرِ
۵۸۹۹- ذَا نَارٍ نَزْدِیْکَ یُوَا
۵۹۰۰- تَنْکَبُ اُتْرَا یَا
۵۹۰۱- قَابِ قَوْسَیْنِ رُو کَمَانِیْنِ
۵۹۰۲- سِدْرَ رُوْءِ الشُّجْرِ یَیْرِی کَا دَرِخْتِ
جُو اُتْرِی ہَدِیْرِ
عَالَمِ ہَادِی اُو رِعَالَمِ
اُخْرَتِ کَے دَرَمِیَانِ
حَدِ فَاصلِ ہَے۔
۵۹۰۳- ضَبِیْرَی بَے دَھَنَکِی
۵۹۰۴- تَسْمِیْہَہٗ نَامِ رَکھْنَا
۵۹۰۵- مَمْبِیْغُ رَسَانِی، لِیَا قَتِ،
پِیچ۔
الرَّبِیْعُ
۵۹۰۶- لَمَمٌ چھوٹے گَنَاہِ

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

القمر (۵۴) سورۃ

۵۹۲۸- مُسْتَمِرًّا پِہلے سَے چَلَا اَیْتُوَا
۵۹۲۵- مَرْدَجِرًا کَا نِی دَانِثِ
۵۹۲۶- تَوَلَّی مَنہ پِھِرَے
۵۹۲۷- اَنْ دِیْھِی، اِنجَانِ
نَا پِہِیَانِ۔
۵۹۲۸- اِزْ دُجْرًا ڈَا نِثَا کِیَا
۵۹۲۹- مَنہ پِھِرِ بَکْرَتِ بَر سَا یَا ہُوَا
۵۹۳۰- ذُو سَیْ مِیْنِیْنِ
۵۹۳۱- کُفْرًا نَا قَدْرِی کِی گَی
۵۹۳۲- مُنْکَرًا نَصِیْحَتِ حَاصِلِ
کَرْنِے دَالَا۔
۵۹۳۳- تَنْزِعًا اُکھَاڑ پِھِیْنَا
۵۹۳۴- اَعْتَجَاژ ڈَا لِیَا
۵۹۳۵- مُنْفَعِرًا کُٹِی ہُو تِی
۵۹۳۶- سَعْرُ جِنُوْنِ،
بَے عَقْلِ
۵۹۳۷- اَنْشَرًا بَہْتِ شَرِیْرِ

۵۹۰۷- اُجْنَتًا بچے
۵۹۰۸- جَبْنِیْنِ وِہ بچے جُو مَآں کَے
پِیْٹِ مِیْنِ ہُو۔
۵۹۰۹- اُکْدَا یِ بَلَنْدِ کَر دِیَا
۵۹۱۰- اُذْنِی پُو رِی پُو رِی
۵۹۱۱- اَصْحَاکَ ہِنَسَا یَا
۵۹۱۲- اُکْلِی رُلا یَا
۵۹۱۳- اَمَّا تِ مَارَا
۵۹۱۴- اَحِیْیِی رَہْلا یَا
۵۹۱۵- تَهْنِی مَی ڈَا لِی جَاتِی ہَے
۵۹۱۶- شَآءَہٗ پِیْدَا تَشِ
۵۹۱۷- اَعْنٰی عَنِّی کَر دِیَا، مَحْتَا جِی
دُو رِکِی، مَالِدَار کَر دِیَا
۵۹۱۸- اَقْشٰی خَزَانِیُوَا لَا کَر دِیَا
۵۹۱۹- شِعْرٰی اِیکِ سْتَارَہِ کَا نَامِ جُو
سُو رِجِ سَے کِی گَنَا بَرَاؤ۔
۵۹۲۰- اَطْفٰی بَہْتِ زِیَادَہِ سُرْکَشِ
۵۹۲۱- مُؤْتَفِکَہٗ اُلْتَا نِی ہُو تِی بَسْتِیَا
۵۹۲۲- اَھْوٰی پِھِیْنَا مَارَا
۵۹۲۳- سَمِیْدُوْنِ غَفْلَتِ کَرِیْہُوَا لَے

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۹۳۸. مُحْتَضَرُ بَارِي بَارِي سے
 حاضری
 ۵۹۳۹. تَعَاظِي پکڑا
 ۵۹۴۰. عَقْرُ کاٹ ڈالا
 ۵۹۴۱. هَشِيمٌ روند اہوا، چورہ،
 پامال۔
 ۵۹۴۲. مُحْتَضِرٌ کاسٹوں کی سوکھی
 پڑانی باڑ۔
 ۵۹۴۳. حَاصِبًا پتھروں کی بارش
 ۵۹۴۴. سَحْرٌ افریشب،
 رات کا پچھلا حصہ
 ۵۹۴۵. اَدْهِي بہت سخت
 ۵۹۴۶. اَمْرٌ بہت کڑوی
 ۵۹۴۷. سَقْرٌ آگ، تیز جلن
 ۵۹۴۸. لَمَحٌ بِالْبَصْرِ چمکنا آنکھ کا
 ۵۹۴۹. اَشْيَاعٌ جماعتیں، گروہ
 ۵۹۵۰. مُسْتَنْطَرٌ لکھا ہوا
 ۵۹۵۱. مَقْعَدٌ صِدْقِي مقام عمدہ
 ۵۹۵۲. مَلِيكٌ بادشاہ
 ۵۹۵۳. مُعْتَدِرٌ قدرت والا

نمبر شمار عربی اُردو

الرَّحْمٰنُ
 (۵۵)
 سُورَةُ

۵۹۵۴. حُسْبَانٌ گردش کرنا والے
 حساب سے
 ۵۹۵۵. اِنَامٌ خلقت
 ۵۹۵۶. ذُو الْعَصْفِ بھوسے والا (عقلم)
 ۵۹۵۷. رِيْحَانٌ غذا نوشبودار
 ۵۹۵۸. الْاَدْوَاءُ نعمتیں
 ۵۹۵۹. فَخَّارٌ ٹھیکرا
 ۵۹۶۰. يَلْتَقِيْنَ لگے ہوتے مل کر
 پھکر چلنے والے
 ۵۹۶۱. بَرَزَخٌ آڑ
 ۵۹۶۲. لَا يَتَّبِعِيْنَ نہیں بڑھ سکتے،
 پار نہیں کر سکتے
 ۵۹۶۳. لَوْ لَوْ مونی
 ۵۹۶۴. مَرَجَانٌ مونگے
 ۵۹۶۵. مُسْتَنْتَبٌ اونچی کشتیاں

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

۵۹۶۶. ذُو الْجَلَالِ عظمت والا
 ۵۹۶۷. شَانٌ کام
 ۵۹۶۸. تَقْلِيْنٌ دو خلقتیں بھاری
 بھرم (جن وانس)
 ۵۹۶۹. تَنَقُّلٌ ذَا نخل بھاگ سکو
 ۵۹۷۰. اَنْطَارٌ حرود، کنارے
 ۵۹۷۱. سُلْطٰنٌ زور، اقتدار
 ۵۹۷۲. شَوَاطِظٌ شعلے، بے دھویں
 کی آگ، بھیانگ
 گرم آگ۔
 ۵۹۷۳. نَحَاسٌ تانبا گلا ہوا گرم
 ۵۹۷۴. وَرْدَةٌ سرخ چمڑا
 ۵۹۷۵. دِهَانٌ تیل کی تلچھٹ
 ۵۹۷۶. نَوَاصِيْءٌ پیشانی
 (واحد: نَاصِيَةٌ)
 ۵۹۷۷. اَقْدَامٌ قدم (جمع)
 ۵۹۷۸. حَمِيْمٌ گرم پانی
 ۵۹۷۹. اَنْجٌ شدید حرارت،
 کھولتا لاوا
 ۵۹۸۰. ذَوَاتَا اَفْئَانٍ کثیر شانوں والے
 دو باغ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۹۸۱. بَطَارِقٌ استر، اندر کا حصہ
 ۵۹۸۲. اِسْتَبْرَقٌ دبیر ریشمی پٹری چمکدار
 ۵۹۸۳. بَجْنَا منتخب شدہ میوہ
 ۵۹۸۴. اِنٍ نزدیک،
 ہاتھ کے قریب
 ۵۹۸۵. طَهْمَشٌ چھونا، نزدیک ہونا
 ۵۹۸۶. يَاقُوْتٌ جواہر قیمتی پتھر
 ۵۹۸۷. مَدُّ هَامَتَيْنِ گہرے گہرے بھرے
 دو باغ
 ۵۹۸۸. نَضَاحَتَيْنِ جوش مارنا والے
 دو چشمے
 ۵۹۸۹. رُمَانٌ انار
 ۵۹۹۰. حَيْرٌ اِحْسَانٌ خوب صورت
 اور خوب سیرت
 ۵۹۹۱. رَفْرَفٌ فرش کے استعمال
 کا باریک کپڑا
 باریک ریشمی کپڑا
 ۵۹۹۲. حَضِيٌّ سبز
 ۵۹۹۳. عَبْقَرِيٌّ قالین

نمبر شمار عربی اُردو

الواقعة (۵۶) سورة

۵۹۹۴. واقِع ہونیوالی
 ۵۹۹۵. خافِضَةٌ نیجا کر دینے والی
 ۵۹۹۶. سَرَّافِعَةٌ بلنڈ کر دینے والی
 ۵۹۹۷. سُرَّجَتْ ہلانی جالتے گی
 ۵۹۹۸. سَرَّجًا جھٹکا دینا، ہلا دینا
 ۵۹۹۹. بَسًّا ریزہ ریزہ کر کے
 اُڑا دینا
 ۶۰۰۰. هَبَاءً غبار کا ریزہ
 ۶۰۰۱. مُنْبِتًا پراگندہ
 ۶۰۰۲. اصْحَابُ الْمِيْمَةِ داہنی طرف والے
 اچھے لوگ۔
 ۶۰۰۳. اصْحَابُ الشِّمْلِے بائیں طرف والے
 بُرے لوگ،
 قراب لوگ
 ۶۰۰۴. ثَلَاثَةٌ بڑی تعداد
 ۶۰۰۵. مَوْضُونَۃ سونے کے تاروں
 سے بنے ہوئے تخت

نمبر شمار عربی اُردو

۶۰۰۶. مُخَلَّدُونَ ہمیشہ رہنے والے
 ۶۰۰۷. اِبَارِيقٌ آفتابے، لوٹے
 ۶۰۰۸. لَا يُصَلُّونَ نہیں سر دکھاتے
 جاتیں گے۔
 ۶۰۰۹. تَأْتِيْمًا گناہ کی بات
 ۶۰۱۰. مَحْضُوْدٌ بے کانٹے کی
 کیلے
 ۶۰۱۱. طَلْحٌ تیرتہ
 ۶۰۱۲. مَنضُوْدٌ تیرتہ
 ۶۰۱۳. مَهْدُوْدٌ لمبھاسایہ
 ۶۰۱۴. مَسْكُوْبٌ جھرنوں کا بہتا پانی
 ۶۰۱۵. اَبْحَارًا کنواریاں
 ۶۰۱۶. عُرْبًا پارسا عورتیں،
 جو خداوند پر عاشق
 ہوں۔
 ۶۰۱۷. اَنْتَرَابًا ہم عمر، نوجوان عورتیں
 ۶۰۱۸. يَحْمُوْمٌ بھیانک سیاہ
 دھواں
 ۶۰۱۹. يُصْرَوْنَ امارا کرتے ہیں
 ۶۰۲۰. جَنَّتْ گناہ
 ۶۰۲۱. شُرُوْبٌ اَلْهِيْمِ پینا پیا سے اونٹوں
 کی طرح

نمبر شمار عربی اُردو

۶۰۲۲. حُطَّامًا ریزہ ریزہ
 ۶۰۲۳. تَفْلَكُهُوْنٌ بائیں بناتے رہ
 جاؤ گے تم
 ۶۰۲۴. مُعْرَمُوْنَ قرض دار ہو گئے
 ۶۰۲۵. مُزْنٌ بدلی
 ۶۰۲۶. تُوْرُوْنَ تم روشن کرتے ہو
 ۶۰۲۷. مُقْوِيْنَ مسافر جنگل و صحرا

الثلثة

۶۰۲۸. مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ ستاروں کا چھیننا
 ۶۰۲۹. مُطَهَّرُوْنَ ستھرے لوگ
 ۶۰۳۰. مُلْهُوْنٌ بات کو سرسری اور
 معمولی سمجھنے والے
 خاص اہمیت نہ
 دینے والے
 ۶۰۳۱. غَيْرُ مَدْيُنِيْنَ حساب نہیں دیتے
 جانے والے
 ۶۰۳۲. رَوْحٌ راحت
 ۶۰۳۳. رِيْحَانٌ خوشبودار رزق
 ۶۰۳۴. تَهْلِيْلَةٌ داخل ہونا
 ۶۰۳۵. جَحِيْمٌ دوزخ، آگ کا گڑھا

نمبر شمار عربی اُردو


الحديد (۵۷) سورة

۶۰۳۶. مُسْحَقِيْنَ تانم مقام، خلیفہ
 ۶۰۳۷. لَقَقِيْسٌ ہم روشنی حاصل
 کریں۔
 ۶۰۳۸. اَلنَّيْسُوْا ڈھونڈلاؤ
 ۶۰۳۹. سُوْرٌ دیوار، اوٹ
 ۶۰۴۰. قَبِيْلٌ طرف
 ۶۰۴۱. اَلْكَرِّيَّانِ کیا وقت نہیں آیا
 ۶۰۴۲. طَالٌ دراز ہوئی
 ۶۰۴۳. اَمَدٌ مدت
 ۶۰۴۴. كَفَّاحُوْرٌ فخر، بڑائی
 ۶۰۴۵. كَثْرَةٌ کثرت
 ۶۰۴۶. عَرْضٌ چوڑان، وسعت
 ۶۰۴۷. نَبْرًا ہم پیدا کرتے ہیں
 ۶۰۴۸. لَا تَأْسُوْا مت غم کرو
 ۶۰۴۹. قَاتٌ جاتی رہی
 ۶۰۵۰. قَفِيْنًا بچھے لاتے ہم
 ۶۰۵۱. رَهْبَانِيَّةٌ ترکِ دنیا، گوشہ گیری

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۵۲۔ عَایَةِ نِگاہ رکھنا

۴۰۵۳۔ کَفَلِیْنَ دُوحَتے



بَارَةُ نَمْبَر (۵۸) لِلمَجَادِلَةِ سُورَةُ

۴۰۵۴۔ نَشْتَكِي شَكَایَت كرتی ہے

۴۰۵۵۔ نَحَاوِرُ سَوَال و جواب ، گفتگو ،

۴۰۵۶۔ يَطَاهِرُونَ ظَهَار كرتے ہیں

(اپنی بیوی کو زانیہ

جاہلیت میں جو شخص

یکہتا تھا کہ تو مجھ پر

میری ماں کی بیٹھکی

طرح ہے تو وہ عورت

مستقل طور پر اس

مرد سے علیحدہ سمجھی

جاتی اسی کو ظہار

نمبر شمار عربی اُردو

کہا گیا ہے

۴۰۵۷۔ اَلنَّجْی دہ عورتیں جو

(اسم موصولہ)

۴۰۵۸۔ يَمَّاسَا ہاتھ لگائیں ایک

دوسرے کو وہ

۴۰۵۹۔ شَهْرَيْنِ دُومہینے

۴۰۶۰۔ مُتَنَابِعِينَ لگاتار، مسلسل

۴۰۶۱۔ سَبِيْنٍ سَاطِھ

۴۰۶۲۔ يُمَجَادِلُونَ مخالفت كرتے ہیں

۴۰۶۳۔ كَبْتُوا ہلاک كئے گئے

۴۰۶۴۔ كَبِتَ ہلاک كیا گیا

۴۰۶۵۔ اَخَصَى گن رکھا ہے

۴۰۶۶۔ مَعْصِيَتٍ نافرمانی

۴۰۶۷۔ حَيِّوْا دعا سلام كرتے ہیں

۴۰۶۸۔ نَفْسًا جگہ کھول دو،

کشاوی سے بیٹھو

۴۰۶۹۔ فَسَّح كشادگی

۴۰۷۰۔ اُنشُرُوا اٹھ کھڑے ہو جاؤ

۴۰۷۱۔ جُنَّة طُھال

۴۰۷۲۔ اَشْحُوذ مسلط ہو گیا،

غالب آیا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۷۳۔ جَرَبٌ گروہ، جماعت

۴۰۷۴۔ اَذْلِيْنَ بہت ذلیل

۴۰۷۵۔ يُوَادُّونَ دوستی كرتے ہیں

الْحَشْرِ سُورَةُ (۵۹)

۴۰۷۶۔ مَارِعَةٌ بچانے والی

۴۰۷۷۔ حُصُونٌ قلعے

(واحد: حِصْنٌ)

۴۰۷۸۔ قَنَافٌ ڈالریا

۴۰۷۹۔ يُخْرِبُونَ خراب كرتے ہیں

۴۰۸۰۔ اَعْتَدُوا عبرت حاصل کرو

۴۰۸۱۔ جَلَاءٌ جلا وطن كرنا

۴۰۸۲۔ لِيْنَةٍ تندر دار درخت

۴۰۸۳۔ اَوْجَعْتُمْ دوڑائے تم نے

۴۰۸۴۔ اِدْوَالَةً ہاتھوں ہاتھ لینا

۴۰۸۵۔ اَعْنِيَاءٌ غنی، مالدار

۴۰۸۶۔ حَاجَةٌ غلش، رشک

حاجت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۸۷۔ يُؤَثِّرُونَ ایشار كرتے ہیں،

مقدم رکھتے ہیں

۴۰۸۸۔ خِصَاصَةٌ تنگدستی، محتاجی

۴۰۸۹۔ يُوقِ بچا یا گیا

۴۰۹۰۔ شُجٌّ بچیلی، کجوسی،

حرص، کھٹک

الزَّبْحِ

۴۰۹۱۔ نَافِقُونَ منافق ہو گئے

۴۰۹۲۔ رَهْبَةٌ ڈر

۴۰۹۳۔ قُرْمِي حُصْنَةٍ بستیاں محفوظ

۴۰۹۴۔ شَتَّى مختلف، متفرق

پھٹے ہوئے

۴۰۹۵۔ وَبَالٌ سزا، وبال

۴۰۹۶۔ خَائِبَةً دبا جانے والا

۴۰۹۷۔ مَمْنُونًا پھٹ جانے والا

۴۰۹۸۔ مَهْمِيْنٌ نگہبانی كرنے والا

۴۰۹۹۔ مُتَكَبِّرٌ بڑانے والا



نمبر شمار عربی اُردو

الممتحنة (۴۰) سورة

- ۴۱۰۰ - تَلَقُّونَ ملاقات کرتے ہو تم
۴۱۰۱ - يُرِيدُوا بے زاریں
۴۱۰۲ - عَادَ يُنْمِرُ عداوت رکھتے ہو تم
۴۱۰۳ - نَظَاهِرًا مددگاری کی
۴۱۰۴ - اِمْتَحِنُوا امتحان کر لو، پرکھ لو
جاں کر لو۔
۴۱۰۵ - لَا تُهْسِبُوا امت قائم رکھو
نہ تھامے رہو
۴۱۰۶ - عَصُوا الْاُنثَرَكَ فرورتوں سے
تعلقات ناموس
رشتہ نکاح
۴۱۰۷ - فَاتٍ ہاتھ سے نکل گئی

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

الصف (۴۱) سورة

- ۴۱۰۸ - مَقَاتًا ناراضی
۴۱۰۹ - بُنْيَانٍ عمارت
۴۱۱۰ - مَرُوضًا سبسہ پلانی ہوئی

الجمعة (۴۲) سورة

- ۴۱۱۱ - اَسْفَارٍ کتابیں بہت
ساری۔
۴۱۱۲ - اِنْفِضُوا دوڑے جاتے ہیں

نمبر شمار عربی اُردو

المنافقون (۴۳) سورة

- ۴۱۱۳ - اَجْسَامٍ جسم، بدن (جمع)
۴۱۱۴ - خُشْبٍ لُكْرِيَاں
۴۱۱۵ - مُسْنَدًا سہارے سے لگی
ہوئی۔

- ۴۱۱۶ - صِيْحَةً آواز
۴۱۱۷ - لَوَاذِمًا موڑتے ہیں
۴۱۱۸ - يَنْفِضُوا بھاگ جائیں،
منتشر ہو جائیں

التغابن (۴۴) سورة

۴۱۱۹ - تَغَابُنٍ بارجیت

نمبر شمار عربی اُردو

الطلاق (۴۵) سورة

- ۴۱۲۰ - يُحَدِّثُ نئی بات
۴۱۲۱ - فَارِقُوا جُدا کر دو
۴۱۲۲ - ذَوَى عَدْلٍ دو انصاف پسند
آدمی

- ۴۱۲۳ - بَالِغٍ پہنچکا، کر کے رہیگا
۴۱۲۴ - اُولَادٍ حَمِلٍ حمل والیاں
۴۱۲۵ - رُجْدٍ مقدور، حیثیت
۴۱۲۶ - يَضَعْنَ حمل رکھدیں،
(الف)

- یعنی بچہ جن لیں
۴۱۲۷ - تَعَاوَنُ تہنی کرو تم
۴۱۲۸ - تَرْضِعُ دودھ پلائے گی
۴۱۲۹ - اُخْرَى دوسری
۴۱۳۰ - ذُو سَعَةٍ صاحب وسعت
سرکش کی

نمبر شمار عربی اُردو

التحریم سورة (۶۶)

۶۱۳۱- تَبَتَّخِي تُوچا ہوتا ہے
۶۱۳۲- تَجَلَّتْ کھولنا، حلال کرنا
۶۱۳۳- اَسَى چھا کر کہا
۶۱۳۴- اُظْهَرَ ظاہر کر دیا
۶۱۳۵- عَرَفَ بتلا دیا
۶۱۳۶- اَعْرَضَ ٹال دیا
۶۱۳۷- صَدَعَتْ مائل ہوئے
۶۱۳۸- تَطَهَّرَا کارروائی کرو گی
تم دونوں
۶۱۳۹- تَبَيَّنَتْ تویہ کرنوالیاں
۶۱۴۰- سَلَّطَتْ روزہ رکھنے والیاں
۶۱۴۱- تَبَيَّنَتْ بیوہ شوہر دیکھی ہوئی
۶۱۴۲- اُبْكَا رُكُواریاں
۶۱۴۳- غَلَاظ سخت دل
۶۱۴۴- نَضَبُوْحَا خالص میں خیر خواہی ہو
۶۱۴۵- اَبْنِي بنادے، تیار کر دے
۶۱۴۶- مَرَج ناموس جسم

نمبر شمار عربی اُردو

بارہ نمبر الملك سورة (۶۷)

۶۱۴۷- طَبَّأْنَا اُوپر تلے
۶۱۴۸- تَفَوَّتْ فرق، چوک
۶۱۴۹- فُطُور شگاف، نخل
۶۱۵۰- كَرَّتَيْنِ دوبارہ
۶۱۵۱- خَاسِبًا ذیل
۶۱۵۲- حَسِيرٌ تھکی ہوئی
۶۱۵۳- مَرْجُومًا مارنا
۶۱۵۴- شَهِيْقًا چیننا، دباڑنا
۶۱۵۵- تَفَوَّرَ جوش مارتی ہے
۶۱۵۶- تَمَيَّزُ پھٹ جائے گی
۶۱۵۷- مُحَقَّقًا لغت
۶۱۵۸- ذُلُوْلًا نرم
۶۱۵۹- مَنَاقِبِ راستے
۶۱۶۰- تَمَّوَسَ تھر تھرانے لگی
۶۱۶۱- لَجَّوَا لگ گئے، اڑ گئے

نمبر شمار عربی اُردو

۶۱۶۲- مُكَبِّبًا اوندھا گرا ہوا
۶۱۶۳- اَهْلَى زیادہ ہدایت یافتہ
۶۱۶۴- مَرُؤْفَى نزدیک
۶۱۶۵- يَتَبَسَّطُ بگڑ جائیں گے
۶۱۶۶- يُجَيِّرُ پناہ دے گا
۶۱۶۷- اَصْبَحَ ہو گیا
۶۱۶۸- غَوْرًا خشک
۶۱۶۹- مَعِيْنٌ جاری

القلم سورة (۶۸)

۶۱۷۰- وَالْقَلَمِ قسم ہے قلم کی
۶۱۷۱- يَسْطُرُونَ لکھتے ہیں
۶۱۷۲- خَلَقَ عَظِيْمًا اخلاق کا اعلیٰ مقام
۶۱۷۳- مَقْفُوْنٌ قندہ والا، دیوانہ
۶۱۷۴- دَهَنٌ سُست ہونا
۶۱۷۵- حَلَّانٌ ڈھیلا پڑنا، نرم ہونا
۶۱۷۶- هَبَّابِيْنِ بہت قسم کھائیوالا
طعنے دینے والا

نمبر شمار عربی اُردو

۶۱۷۷- مَشَاءٍ چال چلنے والا
۶۱۷۸- نَسِيْمٌ چغلی کھائیوالا
۶۱۷۹- عُنُقٌ بدخو، اُجڑ
۶۱۸۰- زَنِيْمٌ بد نصیب، بلاصل
۶۱۸۱- نَسِيْمَةٌ ہم داغ دیں گے
۶۱۸۲- مَحْرُطُوْمٌ ناک، سونڈ
۶۱۸۳- لَا يَسْتَنْزِلُوْنَ نہیں انشا اللہ
کہا انھوں نے،
نہیں استنار
کرتے ہیں۔
۶۱۸۴- طَائِفٌ پھرنے والا
۶۱۸۵- نَائِمُوْنَ سونے والے
۶۱۸۶- صَرِيْمٌ جڑ سے کٹا ہوا
۶۱۸۷- تَنَادَوْا پکارنے لگے
۶۱۸۸- صَاغِرٌ مِيْنٌ کاٹنے والے
۶۱۸۹- سَحْرٌ د بخیلی
۶۱۹۰- اَوْسَطٌ بیچ والا
۶۱۹۱- يَسْتَلُوْنَ الزَّامِ دینے لگے
۶۱۹۲- يَكْتَسِفُ کھول دیا جائیگا
۶۱۹۳- سَاقٌ ساق کی بجلی
(پنڈلی)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۱۹۴. صَاحِبِ الْكُوْتِ بُعْثِي وَالَا (پونس علیہ السلام)	۴۲۰۰. اَلْحَاقَّةُ حَقٌّ هُوَ الْوَالِي
۴۱۹۵. مَلْطُومٌ غَمٌّ سَمَّ بِهْرَا يُوَا	۴۲۰۱. طَاغِيَةٌ حُدَّ سَ زِيَادَهُ
۴۱۹۶. تَكَ اَرْكَ پَالِيَا	۴۲۰۲. حَسُوْمًا جَرَّ سَ كُتْ كَتِي
۴۱۹۷. نُبِيْنٌ كُوْدِيَا كِيَا	۴۲۰۳. صَرِيْعِي كَرِي هُوَتِي
۴۱۹۸. عَرَاءٌ بَنِ وَرْخَتِ وَالِي	۴۲۰۴. سَرَّ اَبِيَّةٌ بَلَنْدَرُ هِي هُوَتِي
جگہ چٹیل میدان	۴۲۰۵. نَبِيٌّ يَادِرْ كَهِي
۴۱۹۹. يَزْبُقُوْنَ پھسلا دیں گے	

الرَّبِيعِ

سورة (۴۹) الْحَاقَّةُ

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۳۱. تُوُوِيْهَ جگہ دیا تھا اسکو	۴۲۳۱. اَرْدُو
۴۲۳۲. نَطْلِي شعلے مارتی ہوتی	
۴۲۳۳. نَزَّ اَعْتَهُ اُدھیر دینے والی	
۴۲۳۴. سَمُوِي مَنْكِي كَهَالِ،	
کلیجہ۔	
۴۲۳۵. اَرْدَعِي بِنْدِرْ كَهَا،	
روک لیا۔	
۴۲۳۶. هَلُوْعَا جِي كَا كِيَا	
۴۲۳۷. جَزُوْعَا گھرانے والا	
۴۲۳۸. مَنُوْعَا مَنُكْرِنے والا	
۴۲۳۹. اَيْكُوْنِ قَاتِمِ، لگاتار،	
مسلل۔	
۴۲۴۰. عَزِيْبِيْنِ ٹوٹی پر ٹوٹی	
۴۲۴۱. مَسْبُوْقِيْنِ عاجز ہونے والے	
۴۲۴۲. يُوُفِضُوْنَ دہ دوڑتے ہیں	

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۲۷. ذَرَّ اَعْمَا ہاتھ	۴۲۲۷. اَرْدُو
۴۲۲۸. اَسْلُكُوْا جگہ دو، گھسیٹو	
۴۲۲۹. لَا يَحْضُ نَبِيْنِ رَغْبَتِ دَلَاتَا	
۴۲۳۰. عَشِيْلِيْنِ زَنَمُوْنَ كَا دَهْوُوْنَ	
بہتی پیپ۔	
۴۲۳۱. كَاهِنٌ فَالِ بَرَانِي وَالَا	
۴۲۳۲. نَقُوْلُ بَاتِ لَكَ دِيْنَا	
۴۲۳۳. اَقَاوِيْلُ بَعْضِ بَاتِيْنِ	
۴۲۳۴. وَتَرِيْنِ رُكْبِ وِلِ، ناڑ	
۴۲۳۵. حَجْرِيْنِ بَجَانِي وَالِي	

سورة الْمَعَارِجِ

۴۲۳۶. حَسْبِيْنِ بَجَاسِ	
۴۲۳۷. اَلْفُ بَزَارِ	
۴۲۳۸. سَنَةٌ سَالِ	
۴۲۳۹. عَقْنِ دُھنی ہوتی اُون	
۴۲۴۰. فَصِيْلَةٌ كُنِيَّةٌ،	
قبیلہ	

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۰۶. وَاَبِيَّةٌ يَادِرْ كَهِي وَالِي	۴۲۰۶. اَرْدُو
۴۲۰۷. نَقُوْحَةُ پھونک	
۴۲۰۸. دَاكَّةٌ تُوُرْ پھوڑ کر دیا جانا	
۴۲۰۹. وَاَهِيَّةٌ سُسْتِ، کمزور	
۴۲۱۰. اَرْجَاءُ كِنَارِي	
۴۲۱۱. خَاَنِيَّةٌ پُوشیدہ	
۴۲۱۲. هَاؤُمُ تَمْ دِيكھو	
۴۲۱۳. كِتَابِيَّةٌ عَمَلِ نَامِ مِيرِ	
۴۲۱۴. عَيْشَةُ عَيْشِ بَہترين	
۴۲۱۵. قَطُوْفٌ مِيوے کے کچھ	
۴۲۱۶. اَرْبِيَّةٌ جھکے ہوئے	
۴۲۱۷. خَالِيَّةٌ گزرے ہوئے	
۴۲۱۸. لَمَّا اُوْتَتْ نَدِيَا جَاتَا مِيْلِ	
۴۲۱۹. لَمَّا اَدْبَرَ نَجَانَتَا مِيْلِ	
۴۲۲۰. قَاَضِيَّةٌ تَمَامِ كَرُوِيْنِي وَالِي	
۴۲۲۱. سُلْطَنِيَّةٌ سُلْطَنَتِ مِيرِي	
۴۲۲۲. فُلُوْدٌ طُوُقِ پھنادو	
۴۲۲۳. صَلُوَا دَاخِلِ كَرُو	
۴۲۲۴. سَلْسَلَةٌ زَنْجِيْرِ	
۴۲۲۵. ذَرَّ اَعْمَا پھانٹش اس کی	
۴۲۲۶. سَبُوْعُوْنَ سَمْرِ	

نمبر شمار عربی اُردو

سورة نوح (۷۱)

۴۲۵۳- اَصُوْرًا ۱ ڈھٹائی بتائی
 اُنھوں نے، ضد کی
 ۴۲۵۴- وَقَار عظمت، بزرگی
 ۴۲۵۵- اَطْوَار طرَح طرح
 ۴۲۵۶- بَسَاطًا بچھونا، کشادہ
 ۴۲۵۷- قَوْمِ نوح کے
 ۴۲۵۸- سُوَاعًا پانچ بزرگوں
 ۴۲۵۹- يٰعُوْرَتِ كے نام جنکی
 ۴۲۶۰- يٰعُوْرَتِ يہ لوگ پرستش
 ۴۲۶۱- نَعْمًا کیا کرتے تھے
 ۴۲۶۲- دِيَارًا ۱ بسنے والا
 ۴۲۶۳- تَبَارًا ۱ ہلاک کر ڈالنا

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

سورة الجن (۷۲)

۴۲۶۴- شَطَطًا زیادتی کی بات
 ۴۲۶۵- رَهَقًا ۱ بردمانی
 ۴۲۶۶- مُلْبَسَاتٌ بھری ہوئی
 ۴۲۶۷- حَرَ سَا چوکیدار
 ۴۲۶۸- مَقَاعِدًا بیٹھنے کی جگہ
 ۴۲۶۹- رَضًا ۱ تیار،
 گھات میں لگا ہوا
 ۴۲۷۰- قَدَدًا ۱ الگ الگ، مختلف
 ۴۲۷۱- هَرَبًا بھاگ کر
 ۴۲۷۲- بَحْسًا ۱ کمی، حق تلفی
 ۴۲۷۳- قَسِطُونَ بدراہ لوگ،
 حق سے پھرے ہوئے
 ۴۲۷۴- تَحَرَّوْا ۱ قصد کیا،
 راستہ ڈھونڈ لیا
 ۴۲۷۵- حَطَبًا ایندھن
 ۴۲۷۶- عَدَقًا ۱ وافر، چھلکتا ہوا
 ۴۲۷۷- صَعَدًا ۱ سخت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۷۸- بَدَدًا ۱ بھیڑ لگا کر
 ۴۲۷۹- لَنْ يَجِيْرَ ۱ نہیں پناہ دے
 سکے گا۔
 ۴۲۸۰- اَقْلًا ۱ بہت تھوڑے
 ۴۲۸۱- رَضًا ۱ سامانِ حفاظت،
 نگہبان۔

سورة المزمل (۷۳)

۴۲۸۲- مَرْمِلًا ۱ کپڑا پیسنے والا
 ۴۲۸۳- نَائِشَةً ۱ اٹھنارات کو،
 نیند توڑ کر
 ۴۲۸۴- وَطَنًا ۱ روندنا، پچلنا
 (نفس کا)
 ۴۲۸۵- اَنْوَمَ قِيلًا ۱ بہت سیدھی بات
 ۴۲۸۶- سَبْحًا ۱ کام، مشغلہ، مصروفیت
 ۴۲۸۷- تَبَيَّنًا ۱ کٹ کر آجانا،
 منقطع ہو کر آنا
 ۴۲۸۸- مَهْلًا ۱ مہلت دے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۸۹- اَنْكَالًا ۱ بیڑیاں
 ۴۲۹۰- اَعْصَةَ ۱ گلے میں پھنس جانے
 والا۔
 ۴۲۹۱- كَيْفًا مَهِيْلًا ۱ بکھری ہوئی ریت
 ۴۲۹۲- وَبَيْلًا ۱ بھاری
 ۴۲۹۳- بَشِيًّا ۱ بوڑھے
 ۴۲۹۴- مَنَقُطًا ۱ پھٹ جائی والا
 ۴۲۹۵- ثَلْثِي ۱ دو تہائی
 ۴۲۹۶- يَضْرِبُونَ ۱ چلتے ہیں
 فِي الْاَرْضِ ۱ زمین میں

سورة المدثر (۷۴)

۴۲۹۷- مُدَّثِّرًا ۱ کپڑا اوڑھنے والا
 ۴۲۹۸- قَمًّ ۱ کھڑا ہو جا
 ۴۲۹۹- اَنْذَسَ ۱ ڈر سنا
 ۴۳۰۰- كَبَّرًا ۱ بڑائی بیان کر
 ۴۳۰۱- رَجُزًا ۱ گندگی
 ۴۳۰۲- اَنْجُرًا ۱ چھوڑ دے، دُور ہو جا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۲. نُقِرَ پھونکا جاتے گا،

آواز دی جائے گی

۴۳۴. نَأْتُونَ صور، نرسنگہ - سحر

آراستہ کرنا

۴۳۵. تَهَيُّوْا چڑھاؤں کا میں

دورخ کا پہاڑ،

۴۳۷. صُعُوْدٌ بڑی اونچی چڑھائی

تیوری چڑھائی

۴۳۸. عَبَسَ منہ بنانا

۴۳۹. لَبَسَ نقل کیا جاتا ہے،

۴۴۰. يُوَثَّرُ ہونا آرا ہے

۴۴۱. لَوَّاحَةٌ مجلس دینے والی

۴۴۲. تَشَعَّرَ عَشْرَ اَنْبِيَاً روشن ہونی

۴۴۳. اُسْفَرَ گرفتار، بندھا ہوا

۴۴۴. زَهِيْنَةٌ ہم بحث کرتے ہیں

۴۴۵. نَحُوْصٌ بحث کرنے والے

۴۴۶. خَائِضِيْنَ گدھے (جمع)

۴۴۷. حُمُرٌ چلے، بہانے، عُذْرٌ

۴۴۸. مُسْتَنْقِذَةٌ فرار ہوتے،

۴۴۹. فُرَتْجٌ بھاگ گئے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۰. فَسُوْرَةٌ شیر

۴۳۱. اَهْلُ التَّقْوَىٰ ڈرنے کے لائق،

جس کا ڈر رکھنا

چاہتے۔

۴۳۲. اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ مغفرت کرنے والا

الثلثة

الْقِيَمَةُ
(۷۵)

۴۳۳. لَوَّامَةٌ ملامت کرنے والی

۴۳۴. بَرَقَ پتھرا جائیں گی،

چندھیا جائیں گی

۴۳۵. خَسِيفٌ بے نور ہو جائے گا

۴۳۶. مَقَرَّ جگہ فرار ہونے کی

۴۳۷. لَكَ وَرَزٌّ نہیں جگہ پناہ کی

۴۳۸. مَعَاذِيْرٌ چلے، بہانے، عُذْرٌ

۴۳۹. نَاضِيَةٌ بارونق،

تازگی والے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۰. بَابِ سَرَةٍ خشک، سوکھا،

بے رونق۔

۴۳۱. فَاقِرَةٌ کم توڑ دینے والا معاملہ

۴۳۲. تَرَاقِيٌّ ہنسلی، جہاں جان

اٹکتی ہے۔

۴۳۳. سَرَّاقٌ جھاڑ پھونک

کرنے والا۔

۴۳۴. اِلْتَفَتٌ پلٹ جاتے گی

۴۳۵. سَاقٌ پنڈلی

۴۳۶. مَسَاقٌ چلنا

۴۳۷. يَسْتَهْطِيْ اکر پاتا ہوا

۴۳۸. اَوْدِيٌّ بڑی خرابی

۴۳۹. سُدَىٰ بے کار

۴۴۰. يُمْنِيٌّ پڑکائی جاتی ہے۔

نمبر شمار عربی اُردو

الدَّهْرُ (۷۶)
سورة

۴۳۱. ذَهْرٌ زمانہ

۴۳۲. مَدُّ كُوْرًا قابل ذکر

۴۳۳. اَمْتِنَاجٌ مالا

۴۳۴. سَلْسِلٌ زنجیریں

۴۳۵. اَغْلَالٌ طوق

۴۳۶. مِرَاجٌ ملونی

۴۳۷. مُسْتَطِيْرًا پھیل جانے والا،

عام۔

۴۳۸. اَسِيْرًا قیدی

۴۳۹. عَبُوْسًا اُداسی

۴۴۰. فَطْرِيْرًا سخت مضمیٰ بنیٰ

۴۴۱. سُرُوْرًا خوش، سرور

۴۴۲. شَمْسًا دھوپ

۴۴۳. مَهْرِيْرًا جاڑا

۴۴۴. دَانِيَةً جھکے ہوئے، قریب

۴۴۵. قَطُوْفٌ میووں کے کچھے

خوشے۔

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۳۵۴۔ تَدْلِيلًا اختیاریں
 نزدیک
 ۴۳۵۷۔ اِنْبِيَاہُ برتن
 ۴۳۵۸۔ قَوَائِرُ يَوْمِ الشَّيْثِ
 ۴۳۵۹۔ تَقْدِيرُ اَنْزَاہِ
 ۴۳۶۰۔ رَجْعِيًّا سوٹھ
 ۴۳۶۱۔ سَلْسِلًا جنت کے ایک
 رُواں دواں چشمے
 کا نام۔
 ۴۳۶۲۔ مَنُورًا بکھرے ہوئے
 ۴۳۶۳۔ اَسْرًا جوڑ، بند

المُرْسَلَات (۷۷)

۴۳۶۴۔ مُرْسَلَات بھیجی جانے والی
 ہوائیں۔
 ۴۳۶۵۔ عُرْفًا نری سے،
 نفع پہنچانے کیلئے
 ۴۳۶۶۔ عَصْفًا زور سے

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۳۸۲۔ شَرْرًا چنگاریاں
 ۴۳۸۳۔ جَهْلًا اوتھوں کی قطاریں
 ۴۳۸۴۔ صُفْرًا زرد، پیلے رنگ
 کے۔
 ۴۳۸۵۔ عَمَّ کس چیز کی؟
 ۴۳۸۶۔ نَوْمًا نیند
 ۴۳۸۷۔ سُبَاتًا آرام کا سبب
 ۴۳۸۸۔ لَبِاسًا پردہ
 ۴۳۸۹۔ وَهَاجًا روشن
 ۴۳۹۰۔ مَعْصِرَات رَس بھری ہوئی
 بدلیاں
 ۴۳۹۱۔ تَجَاجًا بکنزت
 ۴۳۹۲۔ اَلْقَانًا گنجان، گھنے
 ۴۳۹۳۔ سَرَابًا ریت
 ۴۳۹۴۔ مِرْصَاد گھات
 ۴۳۹۵۔ مَابًا ٹھکانہ
 ۴۳۹۶۔ لَبِنِيْنًا رہنے والے
 ۴۳۹۷۔ اَحْقَابًا بے انتہا، بے مدت
 لمبا وقت، لگاتار
 ۴۳۹۸۔ غَسَاقًا پیپ بہتی ہوئی
 ۴۳۹۹۔ وَفَاقًا موافق، پوری
 ۴۴۰۰۔ حَدَائِقُ باغ
 (واحد: حَدَائِقُ)
 ۴۴۰۱۔ دِهَاتًا بھرے ہوئے
 چھلکتے ہوئے
 ۴۴۰۲۔ صَوَابًا ٹھیک، مناسب
 ۴۴۰۳۔ نَزْعًا زور سے کھینچنے
 والے۔
 ۴۴۰۴۔ غُرْقًا ڈوب کر،
 غوطہ لگا کر
 ۴۴۰۵۔ نَسْطًا بند کھول دینا
 ۴۴۰۶۔ سَبْحًا تیرنا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۰۷. سَبَقًا آگے
 ۴۲۰۸. رَاجِفَةً کا پینے والی، غاسل
 ۴۲۰۹. تَنَبُّجٌ پیچھے آئے کی
 ۴۲۱۰. رَادِفَةٌ پیچھے لگی ہوئی
 ۴۲۱۱. وَاجِفَةٌ دھڑکتے ہوئے۔
 ۴۲۱۲. مَرْدُودُونَ پھیرے جانے والے
 ۴۲۱۳. حَازِرَةٌ پہلی حالت،
 اٹنے پاؤں
 ۴۲۱۴. نَجْوَةٌ گلی ہوئی، بوسیدہ
 کھوکھلی۔
 ۴۲۱۵. سَاهِرَةٌ میدان
 ۴۲۱۶. سَهْلٌ موٹا یا، بلندی
 ۴۲۱۷. اَعْطَشَ ڈھانک دیا
 ۴۲۱۸. صُحِيٌّ صبح،
 دھوپ ظاہر ہونا،
 دن کا ابتدائی چڑھاؤ
 ۴۲۱۹. حَرْهًا بچھا دیا اس کو
 ۴۲۲۰. مَرْعَى چراگاہ، چارہ
 ۴۲۲۱. اَرْسَى گاڑ دیا
 ۴۲۲۲. طَامَةٌ آفت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۲۳. فِيمَا نَسْتُ كِیَا تعلق ہے تجھے
 تو کس بات میں
 ۴۲۲۴. عَشِيَّةٌ ایک شام
 ۴۲۲۵. ضَحْرَهَا اس کی صبح

عَلِيس (۸۰)

۴۲۲۶. تَصَدَّى تُو فگر کرتا ہے
 ۴۲۲۷. تَلَهَّى تُو غفلت کرتا ہے
 ۴۲۲۸. اَيَّدَى سَفَرَةٌ ہاتھ سے لکھنے والے
 ۴۲۲۹. كِرَاهٍ بزرگ،
 عظمت والے
 ۴۲۳۰. بَرَزَةٌ نیکو کار
 ۴۲۳۱. قَتَلَ مارا گیا،
 قتل کیا گیا
 ۴۲۳۲. مَا اَكْفَرُ كِیسا ناشکری کرتا
 ہے وہ، کیوں
 ناشکری کرتا ہے
 ۴۲۳۳. اَقْبَرُ گاڑ دیا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۳۴. لَمَّا لَقِئْتُمْ نِہیں پورا کیا
 ۴۲۳۵. صَيًّا ڈالنا
 ۴۲۳۶. شَقًّا پھاڑنا
 ۴۲۳۷. قَضَبًا تزکاری
 ۴۲۳۸. غَلْبًا گھنے، گنجان
 ۴۲۳۹. اُثًّا گھاس
 ۴۲۴۰. صَاحَّةٌ کان پھوڑنے والی
 ۴۲۴۱. صَاحِكَةٌ ہنستے ہوئے
 ۴۲۴۲. مُسْتَبْرَئَةٌ خنداں، شاداں

التكوير (۸۱)

۴۲۴۳. كُوِّرَتْ پست لیا جائے گا
 ۴۲۴۴. اُنْكَرَتْ جھڑپیں گے
 ۴۲۴۵. عَشَارٌ دس ماہ کی حاملہ
 اوتھنی
 ۴۲۴۶. عَطَلَتْ چھٹی پھریں گی
 ۴۲۴۷. سُجِرَتْ بھڑکا دیا جائے گا
 ۴۲۴۸. رُبُّوَجَتْ جوڑے ملائے جائیں گے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۴۹. مَوَّءِدَةٌ زندہ گاڑی ہوئی
 ۴۲۵۰. كَشَطَتْ کھال اُتر دیا جائیگی
 ۴۲۵۱. خُسٌّ چُھب جانے والے
 ٹھٹھک کر
 ۴۲۵۲. اَلْجَوَابِرُ چلنے والے
 ۴۲۵۳. كُنُسٌ تھمر رہنے والے
 ۴۲۵۴. عَسَسَ جالنے لگے
 ۴۲۵۵. تَنَفَسَ دم لیا، سانس لیا
 ۴۲۵۶. مَكِينٌ مرتبہ والا
 ۴۲۵۷. مَطَاعٌ کہا مانا جاتا ہے
 ۴۲۵۸. تَشَمَّ دہاں
 ۴۲۵۹. بَصَّيْنٌ بچیل، لوبھی؟

الانفطار (۸۲)

۴۲۶۰. اِنْتَثَرَتْ جھڑپیں گے
 ۴۲۶۱. فَجِرَتْ بہہ پڑیں گے
 ۴۲۶۲. بَغَّرَتْ اُکھاڑ دی جائیں گی
 الرَّبِيعُ

نمبر شمار عربی اُردو

التطيف (۸۳) سورة

۴۳۴۳. مُطَفِّفِينَ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔

۴۳۴۴. اُنْكَالُوا ناپ کر لیا انھوں نے

۴۳۴۵. يَسْتَوْفُونَ پورا لیتے ہیں

۴۳۴۶. كَالْوَا ناپ کر دیا انھوں نے

۴۳۴۷. يَحْسِرُونَ کم کرتے ہیں،

نقصان کرتے ہیں

۴۳۴۸. مَرْقُومٌ درج کیا ہوا

۴۳۴۹. زَنْكٌ لُكٌ گیا ہے

۴۳۵۰. مَحْجُورُونَ روک دینے جاتیں گے

۴۳۵۱. خَالِصٌ شَرَابٌ خالص شراب

۴۳۵۲. مَحْلُومٌ مہر لگی ہوئی

۴۳۵۳. مَخْتَمٌ مہر

۴۳۵۴. مُشَكٌ مشک

۴۳۵۵. مَتَنَا فُسُونٌ رغبت کرنے والے

۴۳۵۶. تَسْتَدِيرُ جنت کے ایک

چشمے کا نام

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۷۷. يَتَعَاْمَرُونَ انھیں شگلاتے

ہیں۔

۴۳۷۸. فَكَاهِنٌ بائیں بناتے ہیں،

دل لگی کرتے ہیں

۴۳۷۹. هَلْ خُوب دیکھا

۴۳۸۰. تَوَيْبٌ بدل مل گیا

الانشقاق (۸۴) سورة

۴۳۸۱. اُنشَقَّتْ پھٹ جائے گا

۴۳۸۲. اَذْيَبَتْ دھکم پٹے گا

۴۳۸۳. حَقَّقَتْ لائق ہے

۴۳۸۴. مُدَاتٌ کھینچ لی جائے گی

۴۳۸۵. تَمَلَّتْ خالی ہو جائے گی

۴۳۸۶. كَادِحٌ محنت کرنے والا

۴۳۸۷. كَدَّ حَا محنت کرنا،

کوشش کرنا

۴۳۸۸. نَجَّ يَحْوِرٌ نہیں پھرے گا

۴۳۸۹. سَفَقٌ کنارہ آسمان کی وہ

نمبر شمار عربی اُردو

سُرْحَى جو غروب

آفتاب کے بعد

ہوتی ہے۔

۴۳۹۰. وَسَقٌ اکتھا کیا، سیٹ لیا

۴۳۹۱. اَسَقٌ پورا ہوا

۴۳۹۲. يُوْعُونَ وہ چھپا کر دل میں

رکھتے ہیں۔

(مصدر: اِلْعَاءُ)

البروج (۸۵) سورة

۴۳۹۳. اُنْحَدُودُ خندق

۴۳۹۴. قَعُودٌ آس پاس بیٹھے

تھے۔

۴۳۹۵. وُدُودٌ چاہنے والا

نمبر شمار عربی اُردو

الطارق (۸۶) سورة

۴۳۹۶. طَارِقٌ رات کو آنی والا،

ستارہ

۴۳۹۷. اُدْرَقٌ اُچھلتا ہوا

۴۳۹۸. صُلْبٌ مرد کے پیٹھ کی ہڈی

۴۳۹۹. تَرَائِبٌ سینے کی ہڈی

۴۴۰۰. تُبْلَى آزمانی جائے گی،

جارج کی جائے گی

۴۴۰۱. سَكْرٌ اَبْرٌ بھید کی بائیں

۴۴۰۲. ذَاتِ الرَّجْعِ بارش برسانے والا،

یا چکر مارنے والا

۴۴۰۳. ذَاتِ الصَّدْعِ پھٹ جائے والا

۴۴۰۴. هَزَلٌ بے فائدہ

۴۴۰۵. رُكْبَانٌ اَتَّوْرًا

نمبر شمار عربی اردو

الاعلیٰ (۸۷)

- ۴۵۰۶- موعی چارہ
 ۴۵۰۷- مَعْنَاءُ سوکھی گھاس
 ۴۵۰۸- اُخْوَى سیاہ مائل
 ۴۵۰۹- يَتَجَنَّبُ ایک طرف رہے گا،
 الگ رہے گا،
 اجتناب کرے گا
 ۴۵۱۰- اشْقَى بڑا بد بخت
 (اسم تفضیل)
 ۴۵۱۱- يَصْغَى داخل ہوگا

الغاشیة (۸۸)

- ۴۵۱۲- غَاشِيَةٌ چھا جانے والی
 ۴۵۱۳- نَاصِبَةٌ مصیبت جھیلنے
 والے

نمبر شمار عربی اردو

- ۴۵۱۴- اُزْيِيَةٌ کھولتا ہوا
 ۴۵۱۵- صَرِيحٌ جھاڑ، جھنکار
 کانٹے دار
 ۴۵۱۶- لَا يُسْمِنُ نہیں فریر کریگا،
 جسم کو طاقت نہ
 ملے گی۔
 ۴۵۱۷- مَوْضُوعَةٌ رکھے ہوئے،
 موجود
 ۴۵۱۸- تَمَارِقٌ غالیجے
 ۴۵۱۹- مَصْفُوفَةٌ لائن سے لگے ہوئے
 ۴۵۲۰- نَزَائِقِيٌّ مسندیں،
 نفیس پھونے
 ۴۵۲۱- مَبْلُوثَةٌ پھیلے ہوئے،
 بچھاتے ہوئے
 ۴۵۲۲- نُصِبَتْ کھڑے کئے گئے
 ۴۵۲۳- سَطِطِحَتْ بچھانی گئی
 ۴۵۲۴- مَصِيظٌ داروغہ
 ۴۵۲۵- اِيَابٌ آنا، ٹوٹنا

النصف

نمبر شمار عربی اردو

الفجر (۸۹)

- ۴۵۲۶- شَفَعٌ جُفَّتْ، جوڑا،
 مثلاً ۴۷، ۴۸، ۴۹ وغیرہ
 ۴۵۲۷- وَثْرٌ تنہا، طاق، جو برابر
 تقسیم نہ ہوں
 مثلاً ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ وغیرہ۔

- ۴۵۲۸- ذِي حِجْرٍ صاحب عقل
 ۴۵۲۹- اِرْمٌ ایک قوم کا نام
 ۴۵۳۰- ذَاتُ الْعَادِ ستنوں والے
 ۴۵۳۱- جَابِلٌ تراشا انھوں نے
 ۴۵۳۲- صَبٌّ ڈال دیا
 ۴۵۳۳- سَوَظٌ کوڑا
 ۴۵۳۴- لَا تَخَاضُونَ نہیں اُبھارا تم نے
 رغبت نہیں دلانی

- ۴۵۳۵- تَوَارِثٌ میراث کا مال
 ۴۵۳۶- اَكْلًا لَبَنًا کھانا جم کر
 سمیٹ کر کھانا

نمبر شمار عربی اردو

- ۴۵۳۷- حُبًّا جَمًّا محبت کرنا جم کر،
 خوب محبت کرنا
 ۴۵۳۸- حَاسِمِيٌّ لایا جائے گا
 ۴۵۳۹- وَثَاقٌ قید کرنا،
 باندھنا
 ۴۵۴۰- مُطْمَئِنَّةٌ اطمینان والی

البلد (۹۰)

- ۴۵۴۱- حِلٌّ جو احرام سے نکل آیا
 داخل ہونے والا
 اترنے والا
 ۴۵۴۲- كَبِيدٌ مشقت میں ڈالا ہوا
 ۴۵۴۳- لَبِيدٌ خوب
 ۴۵۴۴- شَفَتَيْنِ دو ہونٹ
 ۴۵۴۵- نَجْدَيْنِ دو راہیں
 ۴۵۴۶- لَا اَقْتَمَمَ نہیں گزرا،
 نہیں بیٹھا
 ۴۵۴۷- عَقَبَتْ کھائی

نمبر شمار عربی اُردو

۴۵۴۸۔ فُلُكٌ مُّجُطُّ دینا
 ۴۵۴۹۔ ذٰی سَعْبَةَ بھوکا، فاقہ والا
 ۴۵۵۰۔ ذٰی مَقْرَبَةَ قرابت دار
 ۴۵۵۱۔ ذٰی مَنْرَبَةَ خاک آلود
 ۴۵۵۲۔ مَوْصِلًا بِنْدِکِ ہونی،
 موندی ہونی

سورۃ الشمس (۹۱)

۴۵۵۳۔ تَلَقَّا تلاقا
 ۴۵۵۴۔ جَلِيًّا جلیا
 ۴۵۵۵۔ طَحِيًّا طحیا
 ۴۵۵۶۔ سَمِيًّا سَمِیًّا
 ۴۵۵۷۔ سَقِيًّا سَقِیًّا
 ۴۵۵۸۔ دَمْدَمٌ دَمْدَمٌ
 ۴۵۵۹۔ عَقْبِيًّا عَقْبِیًّا

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الليل (۹۲)

۴۵۶۰۔ شَتَّىٰ مختلف ،
 ۴۵۶۱۔ عُسْرِيًّا تنگی
 ۴۵۶۲۔ تَرَدُّیًّا برباد ہوگا،
 گڑھے میں گرے گا
 ۴۵۶۳۔ تَلَكَّلِيًّا شعلہ مارتی ہونی
 ۴۵۶۴۔ اَشْقَىٰ بڑا بد بخت
 ۴۵۶۵۔ اَشْقَىٰ خوب پرہیزگار،
 اللہ سے بہت زیادہ
 ڈرنے والا۔

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الضحیٰ (۹۳)

۴۵۶۶۔ ضَحِيًّا دن کا چڑھنا،
 دھوپ روشن
 ہو جانا۔
 ۴۵۶۷۔ سَبِيحًا قرار پلڑے،
 چھا جاتے
 ۴۵۶۸۔ مَا دَدَعَ نہیں چھوڑا
 ۴۵۶۹۔ مَا قَلَىٰ نہیں ناتوش رہا
 ۴۵۷۰۔ عَاكِفًا نادار،
 تنگ دست
 ۴۵۷۱۔ لَا تَقْهَرُ مت سختی کر
 ۴۵۷۲۔ لَا تَنْهَرُ مت جھڑک
 ۴۵۷۳۔ حَادِثًا بیان کر

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الشرح (۹۴)

۴۵۷۴۔ وَضَعْنَا اتار دیا ہم نے
 ۴۵۷۵۔ اَلْقَضٰ تُوڑ دیا
 ۴۵۷۶۔ طَهَّرْنَا پیٹھ تیری
 ۴۵۷۷۔ اَلضَّبَّ محنت کر
 ۴۵۷۸۔ اَلرَّغَبَ رغبت کر

سورۃ التين (۹۵)

۴۵۷۹۔ تَيْنًا انجیر
 ۴۵۸۰۔ تَقْوِيْمًا ترکیب،
 سانچہ
 ۴۵۸۱۔ اَسْفَلَ بہت نیچے
 ۴۵۸۲۔ سَاقِلَيْنِ سب سے نیچے

نمبر شمار عربی اُردو

العَلَقُ (۹۶) سُوْرَةُ

۴۵۸۳۔ عَلَوُجُ جِہا ہوا خون
۴۵۸۴۔ اَكْرَمُ بڑا کرم والا
۴۵۸۵۔ رَجْوِي لُوٹنا،
پلٹنا،
پھر کر جانا
۴۵۸۶۔ نَسْفَعًا ہم ضرور
کھسیٹیں گے۔
۴۵۸۷۔ نَاصِيَةِ پيشانی
۴۵۸۸۔ نَادِي ہم مجلس
۴۵۸۹۔ رَنْ يَابِيَةِ ڈھیلنے والے
فرشتے، رکیدنے
والے۔

نمبر شمار عربی اُردو

الْقَدْرُ (۹۷) سُوْرَةُ

۴۵۹۰۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ شبِ قدر
مرتبه اندازہ والی
رات

الثلثة

الْبَيِّنَةُ (۹۸) سُوْرَةُ

۴۵۹۱۔ مُنْفَكِّينَ باز آئیوں والے
۴۵۹۲۔ قَيِّمَةً مضبوط،
دُورست

۴۵۹۳۔ سُرَّ الْبَرِيَّةِ بدترین مخلوق
۴۵۹۴۔ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بہترین مخلوق

نمبر شمار عربی اُردو

الزَّلْزَلُ (۹۹) سُوْرَةُ

۴۵۹۵۔ زَلْزَلٌ زلزلہ،
بھونچال
۴۵۹۶۔ مَا لَهَا کیا ہوا اُس کو
(زمین کو)
۴۵۹۷۔ تُخَوِّتُ بیان کرے گی
۴۵۹۸۔ يَصْدُرُ نکلنے لگے گا
۴۵۹۹۔ اَشْتَاتًا متفرق،
الگ الگ

نمبر شمار عربی اُردو

الْعَدِيَّةُ (۱۰۰) سُوْرَةُ

۴۶۰۰۔ عَدِيَّةٌ دوڑنے والے
گھوڑے۔
۴۶۰۱۔ صَبِيحًا پانپ کر
۴۶۰۲۔ مَوْرِيَّةٌ اُگ بھاڑنیوں والے
۴۶۰۳۔ قَدْحًا ٹاپ مارنا
۴۶۰۴۔ مُغِيْرَاتٍ غارت گری
کرنے والے
۴۶۰۵۔ اُرْتَوَيْنَ اُڑاتے ہیں
۴۶۰۶۔ نَقَعًا گردوغبار
۴۶۰۷۔ وَسَطْنَ بیچ میں گھس جاتی
ہے۔
۴۶۰۸۔ كِتُوْدٌ ناشکر
۴۶۰۹۔ يُعْتَرُ نکال لیا جائے گا
۴۶۱۰۔ حَصَلٌ حاصل کر لیا جائیگا

نمبر شمار عربی اُردو

القارعة (۱۰۱)

سورة

۴۴۱۱۔ القارعة کھڑکھڑاہٹ
۴۴۱۲۔ فراس پتنگے، پروانے
۴۴۱۳۔ مینٹوٹ پرانگندہ
۴۴۱۴۔ منقوش ڈھنٹا ہوا
۴۴۱۵۔ اُمّہ ٹھکانا اُس کا
(اُمّہ اصل معنی ماں)

التكاثر (۱۰۲)

سورة

۴۴۱۷۔ اُلْهُی غافل کر دیا
۴۴۱۸۔ تکاثر کثرت
۴۴۱۹۔ رُزْتَم دیکھ لیا تم نے
۴۴۲۰۔ مَقَابِر قبریں

نمبر شمار عربی اُردو

العصر (۱۰۳)

سورة

۴۴۲۱۔ وَ قسم
(داؤ قسمی ہے)
۴۴۲۲۔ عَصَى زمانہ، وقت،
ڈھلتا ہوا دن
۴۴۲۳۔ تَوَاصَوْ وصیت کی

الهمزة (۱۰۴)

سورة

۴۴۲۴۔ هَمَزَة عیب لگانے والا
۴۴۲۵۔ تُهْمَزَة طعنہ دینے والا
۴۴۲۶۔ اَحْلَد ہمیشہ رہے گا
۴۴۲۷۔ يُنْبِئَنَّ ڈال دیا جائے گا
۴۴۲۸۔ حَطَمَة روند ڈالنے والی
آگ
۴۴۲۹۔ مَوْجِدَة سلگانی ہوتی

نمبر شمار عربی اُردو

۴۴۳۰۔ تَطْلُع خبر لے ڈالے گی
۴۴۳۱۔ اَفْسِدَة دل
(واحد: فَوْاد)

۴۴۳۲۔ مُمَدِّدَة لے لے لے

الفيل (۱۰۵)

سورة

۴۴۳۳۔ اَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والے
۴۴۳۴۔ الْفِيلِ ہاتھی
۴۴۳۵۔ تَضَلَّل سراسر غلط
۴۴۳۶۔ اَبَابِيل جھنڈکے جھنڈ
پرنندوں کے
۴۴۳۷۔ عَصْف بھوسا
۴۴۳۸۔ مَاكُول کھایا ہوا

نمبر شمار عربی اُردو

قریش (۱۰۶)

سورة

۴۴۳۹۔ اِيلَاف اُلفت دلانا
۴۴۴۰۔ رِحْلَة سفر
۴۴۴۱۔ شِئَاء جاڑا
۴۴۴۲۔ صَيْف گرمی

الماعون (۱۰۷)

سورة

۴۴۴۳۔ يَدُع دھکے دیتا ہے
۴۴۴۴۔ سَاهُونَ غفلت برتنے
والے
۴۴۴۵۔ مَاعُون تھوڑی سی چیز،
روزانہ استعمال
کی چھوٹی اشیاء

نمبر شمار عربی اُردو

الکوثر (۱۰۸)

سورة

۴۴۳۴. اَلْكَوْثُرُ كَثْرَتٌ
 ۴۴۳۷. اِنْحَرْ قِرْبَانِي كِر
 ۴۴۳۸. شَانِئَكَ تِيْرَادِشْمِن
 ۴۴۳۹. اَبْتَرُ بے نام و نشان

الکافرون (۱۰۹)

سورة

۴۴۵۰. لَا اَعْبُدُ نَہیں میں عبادت کرتا ہوں۔
 ۴۴۵۱. مَا تَعْبُدُوْنَ جِسکی تم عبادت کرتے ہو۔
 ۴۴۵۲. مَا اَعْبُدُ جِسکی میں عبادت کرتا ہوں۔
 ۴۴۵۳. مَا عِبَدْتُمْ جِسکی تم عبادت کرتے ہو۔
 ۴۴۵۴. عَابِدُوا عبادت کرنے والا

نمبر شمار عربی اُردو

النصر (۱۱۰)

سورة

۴۴۵۵. اَنْفُوْجًا فَوْجِ دَرْوَج
 ۴۴۵۶. اسْتَعْفِرْ مَغْفِرَتِ كِي دَرْوَجَتِ كِر۔

الہب (۱۱۱)

سورة

۴۴۵۷. تَبَّتْ لُٹ گئے،
 ۴۴۵۸. تَبَّ بِلَاک ہو گئے
 ۴۴۵۹. مَا اَعْنِي نَہیں کام آیا
 ۴۴۶۰. ذَاتِ لَهَبٍ شَعْلہ مارتی ہوئی
 ۴۴۶۱. حَمَالَةَ اُٹھا بیوالی
 ۴۴۶۲. حَطَبٌ ایںدھن، لکڑیاں
 ۴۴۶۳. جِدُّ گِردن
 ۴۴۶۴. مَسَدٌ خُوب ٹہی ہوئی

نمبر شمار عربی اُردو

الاحقاف (۱۱۲)

سورة

۴۴۶۵. اِحْدٌ اکیلا
 ۴۴۶۶. الصَّيْدُ بے احتیاج، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اُس کی ضرورت ہو
 ۴۴۶۷. تَمَّيْلِدُ نَہیں جتا کسی کو
 ۴۴۶۸. لَمَّ يُولَدُ نَہیں جتا گیا
 ۴۴۶۹. كُفُوًا برابری کا

الفلق (۱۱۳)

سورة

۴۴۷۰. اَعْوُدُ پناہ پکڑتا ہوں
 ۴۴۷۱. فَلَقٌ صبح، رات کی تاریکی کو چیرنے والی صبح۔

نمبر شمار عربی اُردو

۴۴۷۲. غَاسِقٌ اُنڈھیرا کر نیوالی
 ۴۴۷۳. وَقَبٌ چھا جائے
 ۴۴۷۴. نُفُثْتُ پھونکنے والیاں
 ۴۴۷۵. عُقَدٌ گنڈے، گانٹھیں

الناس (۱۱۴)

سورة

۴۴۷۷. مَلِكٌ بادشاہ
 ۴۴۷۸. مَلُوْكٌ جمع، مُلُوْكٌ
 ۴۴۷۹. اَلْحَنَانُ سچھنے والا
 ۴۴۸۰. يُوْسُوْسُ دوسرا ڈالتا ہے

